

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَكْفُرُوا بِهِ

”اگر بے محنت اور ہم دین اعطا ہوئی تو یہ شک سے بڑی ہی غیر عطا ہوئی“

# جِبْوَاتُ الْوَالِدِ الرَّشِيدِ

ہزاروں ذریعہ مغفرتات میں سے منتخب



صدر لہمان

علماء و مفتیان کرام، اساتذہ و مشائخ عظام، طلبہ و مسلمانو! اہل تشیع کی خدمت میں



گل صدر برگ

۴



فقہ العصر مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم

ناشر

الرَّشِيد

نام کتاب	→	جواہر الرشید (جلد رابع)
مصنف	→	فقیر العصر مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم
تاریخ طبع	→	ربیع الثانی ۱۴۲۱ھ
تعداد	→	۲۳۰۰
مطبع	→	قریشی آرٹ پریس۔ فون: ۶۶۸۶۰۸۳
ناشر	→	الرشید



## ملنے کا پتہ

کتاب گھر السادات سینئر بالقابل دارالافتاء والارشاد

ناظم آباد۔ کراچی

فون نمبر..... ۶۶۸۴۴۰۱ فیکس نمبر..... ۶۶۳۶۶۶ - ۰۲۱

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ

# نہر حسرت در مسلمان

صفحہ	عنوان
۱۱	① پریشانیوں سے نجات کا نسخہ اکسیر <input type="checkbox"/>
۱۱	② قرآن مجید کی دعائیں <input type="checkbox"/>
۱۳	③ تدبیر <input type="checkbox"/>
۱۳	④ دعاء استخارہ <input type="checkbox"/>
۱۵	آج کے مسلمان کے حالات <input type="checkbox"/>
۱۶	⑤ نذر <input type="checkbox"/>
۱۶	اشکال اور حجاب <input type="checkbox"/>
۱۷	نذر کی دو قسمیں <input type="checkbox"/>
۱۷	① مطلق <input type="checkbox"/>
۱۷	② معلق <input type="checkbox"/>
۱۸	⑤ سلوۃ الحاجہ <input type="checkbox"/>
۲۲	④ ثبیات سے نکلنے کی حکمت <input type="checkbox"/>
۲۳	④ تحصیل مقصد کا ناطق طریقہ <input type="checkbox"/>
۲۳	⑤ تکلیفِ رحمت یا عذاب <input type="checkbox"/>
۲۴	⑤ قرب ملک کا ذریعہ <input type="checkbox"/>

- ۲۳  ۶) استخارہ کے بارے میں ایک لطیفہ
- ۲۶  ۷) اصول علاج
- ۲۷  ۸) اسباب کی ناکامی ذریعہ توکل
- ۲۸  ۹) نوحیہ الی ربک
- ۲۹  ۱۰) هل انت الا اصبع دمت
- ۳۰  ۱۱) اس زمانے کے عاشق
- ۳۱  ۱۲) ادائے بے نیازی
- ۳۱  ۱۳) دستخط کا طرز تحریر
- ۳۲  ۱۴) علماء کے لئے افضل ترین ذریعہ معاش
- ۳۳  ۱۵) انوار الرشید اسباق معرفت
- ۳۴  ۱۶) اللہ کے بندوں کے لئے رحمت کی دعاء
- ۳۴  ۱۷) دنیوی نعمتیں شوق و وطن کا ذریعہ
- ۳۵  ۱۸) دنیوی تعلیم یافتہ اسلام کے دشمن
- ۳۶  ۱۹) دنیا سے بے رغبتی
- ۳۷  ۲۰) اپنا سامان اپنے پاس
- ۳۸  ۲۱) جاہل صوفی مریض وہم
- ۳۹  ۲۲) ایک اہم مسئلہ (ملازمہ کا ایوارڈ منت نہویا)
- ۳۰  ۲۳) مہمان کی تواضع میں جلدی
- ۳۰  ۲۴) کسی کی موت کی خبر سننے پر دعاء

- |    |  |                          |
|----|--|--------------------------|
| ۳۱ | ۴۵) عزم و ہمت سے ہر مشکل آسان                  | <input type="checkbox"/> |
| ۳۱ | ۴۶) فہم و تقسیم                                | <input type="checkbox"/> |
| ۳۲ | ۴۷) بلا ضرورت بولنا لغو ہے                     | <input type="checkbox"/> |
| ۳۳ | ۴۸) طویل عمر ہونے پر دعاء                      | <input type="checkbox"/> |
| ۳۳ | ۴۹) تفتق فی الدین                              | <input type="checkbox"/> |
| ۳۶ | ۵۰) حکم پر جہاد کو ترجیح                       | <input type="checkbox"/> |
| ۳۶ | ۵۱) مستشار صالح ہونا ضروری ہے                  | <input type="checkbox"/> |
| ۳۷ | ۵۲) اغنیاء کے ذریعہ مساکین کی مدد              | <input type="checkbox"/> |
| ۳۷ | ۵۳) مہمان میزبان پر بوجھ نہ ڈالے               | <input type="checkbox"/> |
| ۳۸ | ۵۴) اسباب رزق کا ادب و احترام                  | <input type="checkbox"/> |
| ۳۹ | ۵۵) آلات علم کا احترام                         | <input type="checkbox"/> |
| ۵۱ | ۵۶) دم گزر                                     | <input type="checkbox"/> |
| ۵۲ | ۵۷) اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں               | <input type="checkbox"/> |
| ۵۲ | ۵۸) نشتر کے بعد مرہم                           | <input type="checkbox"/> |
| ۵۲ | ۵۹) خدمات و فقیہ کے بارے میں ایک دعاء کا معمول | <input type="checkbox"/> |
| ۵۲ | ۶۰) جہد النفل                                  | <input type="checkbox"/> |
| ۵۲ | ۶۱) بضاعۃ مزجاة                                | <input type="checkbox"/> |
| ۵۲ | ۶۲) چوہے اور چوہر کی مثال                      | <input type="checkbox"/> |
| ۵۵ | ۶۳) اعمال صالحہ کے چہر                         | <input type="checkbox"/> |

- ۵۷ ۱۰ امانت میں خیانت
- ۵۸ ۱۱ اختلاف کی قسمیں اور شرائط
- ۵۹ ۱۲ حج اور عمرہ کرنے والوں کو نصیحت
- ۶۰ ۱۳ فساونیت کی قسمیں
- ۶۱ ۱۴ بوقت طعام کراہت سلام و استحباب کلام کی وجہ
- ۶۲ ۱۵ بوقت طعام قوانین شریعت کی گفتگو مکروہ ہے
- ۶۳ ۱۶ کھانے کو اپنی نشست کے برابر رکھنا چاہئے
- ۶۴ ۱۷ دعاء میں رفع یدین کے مواقع
- ۶۵ ۱۸ بڑوں کے احوال و اقوال سے سبق حاصل کریں
- ۶۶ ۱۹ مسافر خانے اور گھر کی حقیقت
- ۶۷ ۲۰ بازار آخرت ہر وقت کھلا ہے
- ۶۸ ۲۱ دین سے غفلت کی تین صورتیں
- ۶۹ ۲۲ ضعیف اور مریض کی حوصلہ افزائی
- ۷۰ ۲۳ حضرت استاذ طوطا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ
- ۷۱ ۲۴ ظلمہ فساد کا اثر
- ۷۲ ۲۵ شیخ کے کمالات و احسانات کا مراقبہ
- ۷۳ ۲۶ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی عوام سے بیزاری
- ۷۴ ۲۷ ابتلاء و امتحان کی صورتیں
- ۷۵ ۲۸ ذکر اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے

- |    |  |                          |
|----|--|--------------------------|
| ۷۷ | ۵۷ کتاب کے بارے میں اندازہ لگانے کا طریقہ          | <input type="checkbox"/> |
| ۷۸ | ۵۸ اللہ سے مانگنے کا طریقہ                         | <input type="checkbox"/> |
| ۷۹ | ۵۹ کسی کام کی فرصت نہ ملنا بے اعتنائی کی دلیل      | <input type="checkbox"/> |
| ۷۹ | ۶۰ کمر سیدھی کرنے کا نسخہ                          | <input type="checkbox"/> |
| ۸۱ | ۶۱ رجاء و غرور                                     | <input type="checkbox"/> |
| ۸۲ | ۶۲ مغربی جزیرہ میں مرکز الجہاد                     | <input type="checkbox"/> |
| ۸۳ | ۶۳ قلب پر صفت اللہ کی پالش                         | <input type="checkbox"/> |
| ۸۳ | ۶۴ مجاہد کے جسم میں دھاتوں کا تناسب                | <input type="checkbox"/> |
| ۸۳ | ۶۵ دل کے اسپیشلسٹ کی درخواست پر                    | <input type="checkbox"/> |
| ۸۳ | ۶۶ مخالفت کرنے والوں سے                            | <input type="checkbox"/> |
| ۸۵ | ۶۷ اقیاء کے لئے اہم چیز                            | <input type="checkbox"/> |
| ۸۵ | ۶۸ معمولات پر مداومت                               | <input type="checkbox"/> |
| ۸۶ | ۶۹ امام اور منتظر کے جھگڑوں کی وجوہ                | <input type="checkbox"/> |
| ۹۰ | ۷۰ ادب کا تقاضا                                    | <input type="checkbox"/> |
| ۹۱ | ۷۱ روزہ علاج شہوت                                  | <input type="checkbox"/> |
| ۹۲ | ۷۲ تقویٰ شرط تقصد                                  | <input type="checkbox"/> |
| ۹۶ | ۷۳ مرید کو بھگانے پر انعام اور بھگانے والے کو جوتے | <input type="checkbox"/> |
| ۹۶ | ۷۴ چہار مفرح و مقوی غذا                            | <input type="checkbox"/> |
| ۹۶ | ۷۵ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ              | <input type="checkbox"/> |

- |     |                                    |                                     |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------|
| ۹۵  | ۷۶) تالائق متعلقین سے حفاظت کی دعا | <input type="checkbox"/>            |
| ۹۵  | ۷۷) تحیۃ اللہ                      | <input type="checkbox"/>            |
| ۹۶  | ۷۸) یا اللہ میرے دل کو تمام لے     | <input type="checkbox"/>            |
| ۹۶  | ۷۹) رب کریم کی شان تربیت           | <input type="checkbox"/>            |
| ۹۷  | ۸۰) شرعی حلال                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ۹۹  | ۸۱) سیاست کے معنی                  | <input type="checkbox"/>            |
| ۱۰۰ | ۸۲) تصوف فقہ کی اعلیٰ و افضل قسم   | <input type="checkbox"/>            |
| ۱۰۱ | ۸۳) مجاہدہ اجر میں زما دتی کا باعث | <input type="checkbox"/>            |
| ۱۰۱ | ۸۴) علم میں ترقی کا ذریعہ          | <input type="checkbox"/>            |
| ۱۰۲ | ۸۵) برہنہ حالت میں بولنے کا حکم    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ۱۰۲ | ۸۶) معتبر پردہ کون سا ہے؟          | <input type="checkbox"/>            |
| ۱۰۲ | ۸۷) کتاب صحیح ہونے کی شرائط        | <input type="checkbox"/>            |
| ۱۰۲ | ۸۸) اسلام کا تصور قومیت            | <input type="checkbox"/>            |
| ۱۰۲ | ۸۹) اللہ کی محبت کا چشمہ           | <input type="checkbox"/>            |
| ۱۰۲ | ۹۰) صلاح قلب کی علامت              | <input type="checkbox"/>            |
| ۱۰۵ | ۹۱) اہل اللہ سے انتفاع کا طریقہ    | <input type="checkbox"/>            |
| ۱۰۵ | ۹۲) بے دینیوں کا اشکال             | <input type="checkbox"/>            |
| ۱۰۶ | ۹۳) "سگ بھائی" کے معنی             | <input type="checkbox"/>            |
| ۱۰۶ | ۹۴) مؤاخذہ کے لئے عقل کافی ہے      | <input type="checkbox"/>            |



- ۱۰۷ (۹۵) زینہ اترتے چڑھتے وقت کے اذکار کی حکمت
- ۱۰۷ (۹۶) باطنی بلندی اور پستی کی مثال
- ۱۰۸ (۹۷) فسادیت کی دلیل
- ۱۰۸ (۹۸) دینی نفع کے لئے طلب عزت
- ۱۰۸ (۹۹) کسی سے اسلامی تعلق رکھنے کی برکت
- ۱۱۰ (۱۰۰) سوتے شیر جاگ اٹھے



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## جواہر الرشید

### ① پریشانیوں سے نجات کا نسخہ اکسیر:

آج کل ہر شخص یہی کہتا ہے کہ بہت پریشان ہوں، سوائے ان لوگوں کے جو صحیح معنی میں دیندار ہیں۔ جدھر دیکھیں پریشانی اور بے چینی ہے اور اس سے نجات کے لئے لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے کرواتے ہیں۔

قاعدہ: دعائیں تو صرف وہی افضل اور معتبر ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ اس حاجت و ضرورت کی یہ دعاء ہے تو بس وہی معتبر ہے۔ کام کرنے والا، تدبیر کو کارگر کرنے والا، دعاء قبول کرنے والا تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے اس لئے اسی کا فیصلہ معتبر ہے۔

### قرآن مجید کی دعائیں:

آج کے مسلمان کو اللہ سے اتنا بعد ہے کہ یہ اللہ کی بتائی ہوئی دعائیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے استعمال نہیں کرتا، اسے اللہ پر اعتماد ہی نہیں، مثال کے طور پر

سورۃ فرقان میں ایک دعاء ہے:

① ﴿ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قررة أعين واجعلنا  
للمستقين إماماً﴾ (۲۵ - ۲۴)

”اے ہمارے رب! ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطاء فرما جو  
آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں مستقین کا امام بنا دے۔“

دیکھئے کہنے کو یہ ایک دعاء ہے لیکن کتنے مقاصد اس سے پورے ہوتے ہیں:

① کسی مرد کی شادی نہ ہو رہی ہو اس کے لئے یہ دعاء ہے۔

② کسی عورت کی شادی نہ ہو رہی ہو اس کے لئے بھی یہی دعاء ہے۔

③ اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس کے لئے بھی یہی دعاء ہے۔

④ اولاد نافرمان ہو تو اس کے لئے بھی یہی دعاء ہے۔

⑤ شوہر بیوی سے اچھا سلوک نہ کرتا ہو تو اس کے لئے بھی یہی دعاء ہے۔

⑥ بیوی شوہر سے اچھا سلوک نہ کرے تو اس کے لئے بھی یہی دعاء ہے۔

یہ تو وہ مقاصد ہیں جن کے حصول کے لئے بے دین لوگ نہ معلوم کیا کیا

طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک ساتواں فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں

دیندار لوگوں کے لئے دینی ترقی ہے۔

⑦ دینی ترقی:

یہ عباد الرحمن کی دعاء ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاء نقل فرما رہے ہیں کہ

رحمن کے بندے یوں دعاء مانگا کرتے ہیں لیکن آج کا مسلمان ایسا نالائق، ایسا نالائق

کہ اس سے یہ دعاء نہیں مانگی جاتی۔

⑧ صالح ترینہ اولاد کے لئے قرآن مجید میں یہ دعاء ہے:

﴿اربنا هب لى من الصالحين﴾ (۳۷ - ۱۰۰)

”اے میرے رب! مجھے صالح بیٹا عطاء فرما۔“

③ دفع سحر و آسیب کے لئے قرآن مجید میں آخری دو سورتیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قسم کے شر سے خصوصاً سحر و آسیب سے حفاظت کے لئے ان جیسی کوئی چیز نہیں:

﴿إِنَّهُ مَا تَعُوذُ الْمَعُوذُونَ بِمِثْلِهِمَا﴾

اور فرمایا کہ ان جیسی کوئی آیت نہیں:

﴿الْأَنْزِلَ أَعْلَىٰ آيَاتٍ لِّمِثْلِهِنَّ﴾

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے "السنار المنيف" میں فضائل سور کے بارے میں ان دونوں حدیثوں کو صحیح ترین احادیث میں شمار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج انہی سورتوں سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ سورتیں نازل فرمائیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ سورتیں پڑھیں تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سحر کا اثر زائل ہو گیا اور بالکل شفاء ہو گئی۔ لیکن آج کے مسلمان کا اس پر ایمان نہیں اس لئے عالموں کے چکر میں پڑ کر اپنا مال بھی، سکون بھی، دنیا بھی، آخرت بھی سب کچھ تباہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو عقل اور قرآن مجید پر ایمان عطا فرمائیں۔

④ ایک اور دعاء ہے جو ہر پریشانی کا علاج ہے:

﴿حَسْبَا اللّٰهُ وَنَعْمَ الْوَكِيْلُ﴾ (۲ - ۱۰۳)

"ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔"

غزوة احد کے موقع پر ستر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے اور تمام صحابہ کرام بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے اس حالت میں یہ اطلاع ملی کہ دشمن کی تازہ دم فوج حملہ آور ہونے والی ہے تو انہوں نے فوراً کہا: حَسْبَا اللّٰهُ وَنَعْمَ الْوَكِيْلُ۔ اس پر اللہ کی کیسی رحمت ہوئی، فرمایا: فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لِّمِيسِهِمْ سَوْءٌ۔ "ف" فوراً کے لئے ہے یعنی فوراً اللہ کی مدد پہنچ گئی، جس کے بارے میں

قرآن میں ہو اور جو اللہ کے محبوب بندوں کی دعاء ہو اور اس پر فورا اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی ہو یہ دعاء آج کے مسلمان سے نہیں مانگی جاتی۔

## ۲) تدبیر:

ہر پریشانی سے نجات اور وسعت رزق کیلئے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر بیان فرمائی ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (۳۰:۴-۶۵)

"اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے (مسرتوں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس (کی اصلاح مہمات) کے لئے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام (جس طرح چاہے) پورا کر کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک اندازہ (اپنے علم میں) مقرر کر رکھا ہے۔"

جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، رزق کا لفظ تمام ضروریات کو شامل ہے۔ بس صرف ایک کام کرنا ہرے گا کہ تقویٰ اختیار کر لے، یہ صرف رزق ہی کی پریشانی نہیں بلکہ ہر پریشانی سے نجات کی بشارت ہے۔

## ۳) دعاء استخارہ:

کسی خاص مقصد کی طلب کے لئے دعاء استخارہ بتائی گئی ہے۔ اگر اس چیز کو

حاصل کرنا اختیار میں ہو لیکن تردد ہو کہ کرنا چاہئے یا نہیں تو اس کے لئے سنت کے مطابق استخارہ کر لے یا اگر کوئی چیز اختیار میں نہیں اور اس کے لئے مراجعہ ہے تو بھی استخارہ کر لے۔ اگر اللہ پر ایمان کامل ہو تو استخارہ کے بعد سکون ہو جائے گا لیکن آج کے مسلمان کو تو اللہ پر یقین ہے ہی نہیں، اعتماد ہی نہیں تو اسے سکون کیسے ملے، چونکہ اللہ پر اعتماد نہیں اس لئے یہ نہیں سوچتا کہ اگر وہ چیز اس کے لئے بہتر ہوتی تو مقدر ہو جاتی۔

## آج کے مسلمان کے حالات:

❶ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں عباد الرحمن کی ایسی دعاء بتا دی جو کئی مقاصد کے لئے ہے لیکن آج کے مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ شادی کے لئے سورۃ مریم پڑھیں یا سورۃ مزمل پڑھیں اور یا لطیف پڑھیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی دعاء پسند نہیں اس پر اعتماد نہیں، سورۃ مریم اور سورۃ مزمل میں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ یہ شادی کے لئے پڑھی جائیں، مگر یہ پھر بھی یہی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے جو اتنی جامع دعاء بتا دی وہ نہیں پڑھیں گے۔

❷ کہتے ہیں کہ سورۃ یوسف پڑھیں تو بہت خوبصورت بیٹا پیدا ہوگا۔ چلئے اگر خوبصورت بیٹا پیدا ہو بھی کیا اور وہ والدین کے لئے وبال جان بن گیا تا فرمان ہوا تو خوبصورت بیٹا کس کام کا؟ اولاد خواہ بیٹا ہو یا بیٹی صالح ہونی چاہئے، قرآن مجید میں عباد الرحمن کی جو دعاء ہے اس میں یہی ہے کہ میاں، بیوی، اولاد سب مستحقین ہوں لیکن آج کا مسلمان یہ دعاء نہیں مانگتا بلکہ خوبصورت بیٹے کے لئے سورۃ یوسف پڑھتا ہے۔

❸ شوہر بیوی، بھائی بہنوں اولاد اور والدین میں باہم محبت و الفت کے لئے بھی یہی عباد الرحمن والی دعاء ہے لیکن ان لوگوں کو یہ دعاء پسند نہیں یہ اس مقصد کے لئے یاد دہی پڑھتے ہیں۔

۱۰ رزق کے لئے سورۃ واقعہ پڑھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے لئے: **حَسْبُكَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ**۔ بتایا ہے اور تدبیر: **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ**۔ لیکن آج کے مسلمانوں کو اللہ کی بتائی ہوئی دعاء اور تدبیر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دعاء پسند نہیں یہ اپنے نئے نئے طریقے ہی نکالتے رہتے ہیں۔

## ۱۱ نذر:

اللہ سے شرط باندھتے ہیں کہ تو میرا یہ کام کرے گا تو میں اتنی رکعتیں پڑھوں گا اور اگر تو میرا یہ کام نہیں کرے گا تو میں بھی تیری عبادت نہیں کروں گا۔ پھر بعض تو ساری عمر کی منت مان لیتے ہیں، یہ کام عورتیں بہت کرتی ہیں کہ روزانہ اتنے نفل پڑھیں گے یا فلاں فلاں دن روزہ رکھیں گے پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب کیا کریں ہم سے تو ہوتا نہیں، دوسری بات یہ کہ نذر مانیں گے تو نفل نماز یا روزہ کی مال کی نذر نہیں مانتے۔ ارے! اگر ماننی ہی ہے تو مال کی نذر مانو کچھ تو حسب مال کا علاج ہو مگر نہیں ان سے مال نہیں نکالا جاتا ان کا حال تو یہ ہے کہ چمڑی جائے تو جائے دسڑی نہ جائے اور اگر مال نکالیں گے بھی تو کیا کہ بکرا ذبح کرو کالا بکرا۔

## اشکال اور جواب:

اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ نذر تو قرآن مجید، حدیث اور فقہ سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَلْيُؤْتُوا ذَوْرَهُمْ وَلْيُطْفِئُوا بِآلِيتِ الْعَتِيقِ﴾ (۲۲ - ۲۹)

اس کا جواب یہ ہے کہ نذر کی دو قسمیں ہیں ان دونوں قسموں کا حکم مختلف ہے۔

## نذر کی دو قسمیں:

### ۱) مطلق:

کسی چیز کے ساتھ اس کو مشروط نہ کیا کہ یہ کام ہوا تو میں یہ کروں گا اور اگر نہ ہوا تو نہیں کروں گا، بس ایسے ہی اپنے ذمے کوئی نیکی کا کام لے لیا جیسے میں جہاد میں ایک چلہ لگاؤں گا یعنی اپنے اوپر کسی نیک کام کو لازم کر لیا۔ اس سے میں منع نہیں کرتا یہ تو اچھی بات ہے۔

### ۲) معلق:

یعنی نذر کو کسی چیز کے ساتھ معلق کرنا جیسے:

۱) اگر میں نے فلاں کام نہ کیا تو اتنے پیسے اللہ کی راہ میں لگاؤں گا۔  
 ۲) اگر میں نے فلاں کام کیا تو اتنے پیسے لگاؤں گا۔ ان دونوں صورتوں میں بھی کوئی اشکال نہیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے یا کسی برے کام سے بچنا چاہتا ہے تو اپنے نفس پر ضابطہ رکھنے کے لئے اس طرح نذر مان لینا صحیح ہے بلکہ اچھی بات ہے۔

۳) تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے اختیار میں نہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شرط باندھتا ہے کہ اگر تو میرا یہ کام کر دے تو میں دو رکعت پڑھوں گا اور اگر نہیں کرتا تو نہیں پڑھوں گا، یہ ٹھیک نہیں۔ اگرچہ یہ جائز ہے اور نذر منعقد ہو جاتی ہے مگر ایسا کرنا ٹھیک نہیں یہ طریقہ اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت کے خلاف ہے۔ نذر کی اس قسم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿لَا تَنْذَرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَغْنَىٰ مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا وَالْمَا

يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ﴾ (معلق علیہ)



”نذر مت مانا کرو اس لئے کہ نذر تقدیر کے مقابلہ میں کچھ نہیں کر سکتی، بس یہ بخیل سے کچھ نکالنے کا ذریعہ ہے۔“

صحیح طریقہ یہ ہے کہ مال یا بدنی یا زبانی عبادت کی نذر ماننے کی بجائے اسی وقت وہ عبادت کر لی جائے۔ صدقہ اور دوسری عبادات نافلہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور آفات سے حفاظت رہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ان الصدقة لتطفى غضب الرب وتدفع ميتة السوء﴾

(ترمذی)

”بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔“

## ۵ صلوة الحاجہ:

یعنی بھی حاجات ہیں سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر بتادی:

﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث

لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾ (۶۵ - ۶۳)

مخرجاً نکرہ ہے جو تعمیم کے لئے ہے یعنی جو بھی اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانیاں چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمادیں گے اسے تمام پریشانیوں سے نجات عطاء فرمادیں گے اس کی کوئی حاجت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

﴿من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع

له شمله واتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه

جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأت من

الدنيا الا ما قدر له﴾ (ترمذی)

”جس نے آخرت کو مقصود بنالیا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا عطاء فرماتے ہیں اور اس کی متفرق حاجات پوری فرماتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی آتی ہے اور جس نے دنیا کو مقصود بنالیا اللہ تعالیٰ اسے فقر وفاقہ سے خوف زدہ رکھتے ہیں اور اسے متفرق حاجات میں مبتلا رکھتے ہیں پھر بھی اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لئے مقدر ہے۔“

اور فرمایا:

﴿مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هِمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دَلِيَاهِ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ أَحْوَالُ الدُّنْيَا لَمْ يَبَالِ اللَّهُ فِي أَمْرِ أَوْ دِينِهِ هَلْكَ﴾ (ابن ماجہ)

”جس نے اپنے تمام تنگنکرات کو ایک ہی فکر بنالیا یعنی فکر آخرت اللہ اسے دنیا کے تمام تنگنکرات سے کافی ہو جاتا ہے اور جسے دنیا کے تنگنکرات نے گھیر لیا اللہ اس کی پروا نہیں کرتا کہ وہ کہاں ہلاک ہوا۔“

کئی حدیثوں میں اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اکابر نے فرمایا:

”فکر آخرت حصائے موسوی ہے جو تمام تنگنکرات کو کھا جاتی ہے۔“

جس کے قلب میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے دنیا کے تمام تنگنکرات اس کے قلب سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے باوجود قرآن مجید میں دعاؤں کا ذکر ہے کہ اللہ کے بندوں نے کس کس طرح دعائیں کیں اور دعاء کی تکتین بھی ہے: ادعوا ربکم۔ دعاء کا حکم اور اس کی اہمیت اس لئے ہے کہ دعاء مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے اور محبت میں ترقی سے دین میں ترقی ہوتی ہے اور نافرمانیاں

چھوٹی جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری آخرت کے لئے ہیں کہ آخرت بن جائے، دین بن جائے۔ رہیں دنیوی حاجات تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی نافرمانیاں چھوڑ دے، اطاعت اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں سے نجات عطاء فرمادیں گے۔ ربنا اننا فی الدنیا حسنة۔ میں دنیا کی دعاء نہیں بلکہ دنیا میں اچھی حالت کی دعاء ہے، اچھی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ کر اس کی رضا اور فکر آخرت کی توفیق مل جائے، نافرمان کو دنیا میں بھی سکون ہرگز نہیں مل سکتا۔ (اس پر حضرت اقدس کا مفصل وعظ ہے کہ جب گناہ چھوڑنے سے تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر دعاء مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جامع) جس طرح حدیث میں صلوة الاستخاره کا ذکر ہے کہ کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آئے تو یہ نماز پڑھ لی جائے ایسے ہی حدیث میں ہے کہ کبھی کوئی حاجت پیش آجائے تو صلوة الحاجہ پڑھ لی جائے، کبھی کبھار، یہ نہیں کہ ہر وقت روزانہ صلوة الحاجہ ہی پڑھتے رہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کبھی کوئی اہم حاجت ہو تو صلوة الحاجہ پڑھ لی جائے۔

آج کل لوگوں کی حاجات بہت ہیں، یہ تو ایک ایک دن میں کئی کئی بار صلوة الحاجہ پڑھیں گے تو بھی ان کی حاجات پوری نہیں ہوں گی، بس صلوة الحاجہ ہی پڑھتے رہیں گے۔ یہ دنیا کی ہوس کا کرشمہ ہے۔

ماقضى احد منها لبانه

ولا انتهى ارب الا الى ارب

”کسی نے بھی دنیا میں اپنی حاجت کو پورا نہیں کیا۔ ایک حاجت

پوری ہو گئی تو دوسری حاجت پیدا ہو جاتی ہے۔“

آج کل لوگوں کی حاجات اتنی زیادہ اس لئے ہیں کہ اللہ کے نافرمان ہیں، جب بندہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن جاتا ہے تو اس کی سب حاجات تو ویسے ہی پوری ہو جاتی

ہیں۔ اللہ کی عبادت تو اس لئے کرنی چاہئے کہ ہم بندے ہیں تو معبود ہے ہمارا کام ہی تیری عبادت کرنا ہے لیکن آج تو لوگ اللہ سے شرط باندھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں، ایسے نالائق ہیں کہ اللہ کو گویا رشوت دے رہے ہیں کہ ہم نے صلوة الحاجہ پڑھ لی اب تو ہمارا کام کرے۔ اس غلط رجحان کی اصلاح کے لئے ہی میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ کم از کم ایک بار تو صلوة الحاجہ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے کیونکہ سب سے بڑی حاجت، سب سے بڑی حاجت تو بس یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے لیکن آج کے نالائق مسلمان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔

حاصل اس تقریر کا یہ نکلا کہ نافرمانیاں چھوڑنے والے اور فکر آخرت رکھنے والے کی دنیوی حاجات تو ہوتی ہی نہیں اس لئے کہ:

① اللہ تعالیٰ اس کے کفیل ہو جاتے ہیں۔

② ان لوگوں کے نزدیک دنیوی حاجات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے کے سامنے کوئی حاجت ہوتی ہی نہیں اور اگر ہو تو بھی وہ سمجھتا ہے کہ کوئی حاجت ہے ہی نہیں، دنیا تو گزر جانے والی ہے اصل چیز تو آخرت ہے دنیوی ضرورات کی اس کے نزدیک اہمیت نہیں ہوتی اس لئے وہ ان کے بارے میں دعاء بھی نہیں کرتا۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر صحت میں یہ کیوں ہے کہ کوئی حاجت ہو تو اس کے بارے میں صلوة الحاجہ پڑھ لی جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھار شاز و نادر اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آگئی جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ حاجت اگر پوری نہ ہوئی تو اس سے آخرت کا ضرر ہو گا یا کوئی ایسی حاجت ہے جس سے دینی نفع و اہستہ ہے تو اس کے لئے پڑھ لے، یہ نہیں کہ ہر وقت صلوة الحاجہ ہی پڑھ رہے۔ اللہ کا بندہ تو اللہ کی ہر قضاء پر راضی رہتا ہے اس کا حال تو یہ ہے:

”جو مرضیٰ مولیٰ دہی مرضیٰ دولا، جب ڈبوئے مولیٰ تو کیا بچائے

## ② ثبیات سے نکاح کی حکمت:

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿عسی ربه ان یتلفکھن ان یتدلہ ازواجاً خیراً منکن  
مسلمت مؤمنت قنت لثبت عہدت منحت ثبیت  
وابکارا﴾ (۶۶-۵)

”اگر رسول تم عورتوں کو طلاق دے دیں تو ان کا رب بہت  
جلد تمہارے بدلے ان کو بہت اچھی عتیاں دے دے گا  
جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، فرمانبرداری کرنے والیاں، توبہ  
کرنے والیاں، عہدات کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں ہوں  
گی کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں ہوں گی۔“

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ابکار کے ساتھ ثبیات کی  
نعت کا بھی ذکر ہے، بعض مفسرین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ثیبہ کو شوہر کی  
خدمت کرنے، اسے آرام پہنچانے، راضی رکھنے اور گھر سنبھالنے کا سلیقہ ہوتا ہے مگر  
اس میں یہ اشکال ہے کہ یہ سلیقہ تو باکرہ میں بھی چند روز کے بعد پیدا ہو جاتا ہے،  
ثیبہ بھی تو شروع میں باکرہ ہی ہوتی ہے، چند روز کے بعد شوہر کی تربیت اور تجارب  
سے ہر کام میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے پورا سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے، میرے خیال میں  
اس کی بہتر توجیہ یہ ہے کہ جب ثیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گی تو پہلے  
شوہر کی نسبت ہر طریقے سے ہر لحاظ سے بہتر پائے گی، قوت جسمانیہ کے اعتبار  
سے، اخلاق کے اعتبار سے، غرض تمام اوصاف کے لحاظ سے، کسی صفت میں بھی ہی  
کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، جب ہر لحاظ سے نبی کو بہتر پائے گی تو نبی کی محبت و  
عظمت بڑھے گی جب محبت و عظمت بڑھے گی تو شوہر کی خدمت زیادہ کرے گی، یہ

فائدہ ہے ٹیپہ سے۔ یہ توجیہ کسی کتاب میں میری نظر سے نہیں گزری میں نے نتیجہ بھی نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ کسی کتاب میں ہو (حضرت اقدس کا یہ علم اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ جامع)

### ۳) تحصیل مقصد کا غلط طریقہ:

ایک دستور عام ہو گیا ہے کہ کسی کی کوئی یادگار رکھنے کے لئے یہ تدابیر کی جاتی

ہیں:

① کسی نے کوئی کتاب ہدیہ دی تو کہتے ہیں کہ اس پر پہ لکھ کر کہ میں نے فلاں کو ہدیہ دی ہے اپنے دستخط کر دیں۔

② کبھی اپنی کوئی کاپی وغیرہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نصیحت لکھ کر اپنے دستخط کر دیں۔

③ اپنی کسی کاپی پر صرف دستخط ہی لے لیتے ہیں۔

یہ جانبین میں خصوصی تعلق کی سند ہے وہ اس سے اپنا کوئی غلط مقصد بھی حاصل کر سکتا ہے اس لئے میں اس سے احتراز کرتا ہوں۔

### ۴) تکلیف رحمت یا عذاب:

دنیا میں مرض یا اور کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے تو دو حالتیں ہوتی ہیں، اس کے ازالے کے اسباب موجود ہوں گے یا نہیں، پھر دونوں قسموں میں دو قسمیں ہیں بلا سبب کام بن گیا یا اسباب کی ضرورت پیش آئی، پھر دو قسمیں ہیں اسباب میسر ہیں یا نہیں، پھر اگر اسباب میسر ہوں تو دو قسمیں ہیں اسباب اختیار کرنے سے کام بن گیا یا نہیں بنا جتنی شہیں بتائی ہیں ہر ایک میں خیر اور شر ہونے کے دونوں احتمال ہیں، ہر حال میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے یا پہلے توجہ نہیں تھی تکلیف کے بعد

توجہ ہو گئی تو یہ رحمت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف شروع سے توجہ نہیں تھی تکلیف کے بعد بھی وہی حالت رہی یا پہلے توجہ تھی تکلیف کے بعد بے صبوری اور جبر و فزع کرنے لگا تو یہ حالت اس کے لئے شر ہے عذاب ہے۔

## ⑤ قرب ملک کا ذریعہ:

ایک حاجی صاحب نے اپنا ایک قصہ بتایا: "انہوں نے دیکھا کہ منیٰ میں قصر الملک کے قریب کچھ بچے کھیل رہے تھے انہوں نے ایک بچے کو پیار کیا اور پر سے ملک نسل دیکھ رہے تھے انہوں نے ایک شخص کو بھیجا اس نے میرا نام اور معلم کا نام اور پتا مجھ سے پوچھ کر لکھ لیا میں بہت ڈرا کہ شاید ملک کو میری یہ حرکت پسند نہیں آئی معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، میں بہت ڈرنا رہا۔ میں جب اپنے معلم کے پاس پہنچا تو وہاں ملک کا فرستادہ آگیا اس نے ملک کی طرف سے کھانے کی دعوت دی تو میں چلا گیا اس نے بہت پر تکلف دعوت کی، اس کے ساتھ شاہی مہمان ہونے کا ایک پروانہ دیا کہ جہاں بھی جائیں یہ پروانہ دکھا کر شاہی مہمان کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔"

اس وقت سے میں نے یہ معمول بنالیا ہے کہ جب درود شریف پڑھتا ہوں تو یہ نیت کر لیتا ہوں کہ یا اللہ! تیرے ایک مخلوق بادشاہ کے بچے سے جس نے محبت کا انار رکھا بادشاہ نے اسے کیسے اکرام اور قرب سے نوازا، یا اللہ! میں تیرے حبیب سنی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں اس عمل کے حقدار سے میرے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما۔

## ⑥ استخارہ کے بارے میں ایک لطیفہ:

ایک بار حضرت اقدس کو بعض اہم دینی کاموں میں مشورہ کے لئے بلایا گیا وہاں

پہنچنے پر معلوم ہوا کہ کوئی غلط قسم کا مشہور پیر بھی مدعو ہے اس نے حضرت اقدس سے کہا: "میں نے رات آپ کی کھانے کی دعوت کرنے کے بارے میں استخارہ کیا تو جواب ملا کہ آپ کی دعوت ضرور کروں۔" حضرت اقدس نے فوراً برجستہ جواب دیا: "آپ نے تو رات استخارہ کیا تھا میں نے ابھی ابھی کر لیا۔ مجھے یہ جواب ملا کہ ہرگز قبول نہ کروں، دونوں کے استخارہ پر عمل ہو گیا، آپ نے اپنے استخارہ کے مطابق میری دعوت کر دی اور میں نے اپنے استخارہ کے مطابق انکار کر دیا۔" مجلس میں موجود علماء یہ لطیف سن کر بہت محظوظ ہوئے۔

کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک ہی لمحہ میں استخارہ کیسے کر لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے "استخارہ" سے اس کے لغوی معنی مراد لئے تھے۔ یعنی "مطلب خیر" اور دعوت سے انکار کرنے میں خیر دلائل شرعیہ سے واضح تھی، قبول کرنے سے عوام کے عقیدہ میں فساد پیدا ہونے کا شدید خطرہ تھا، یہ حقیقت اتنی واضح تھی کہ اس کے لئے ذرا سی دیر بھی سوچنے کی حاجت نہ تھی اس لئے میں نے فوراً اپنا استخارہ بتا دیا، مقولہ مشہور ہے کہ

در کار خیر حاجت ہیج استخارہ نیست

"کار خیر میں استخارہ کی کوئی حاجت نہیں۔"

اسی طرح یہ حقیقت بھی مسلم ہے

در کار شر حاجت ہیج استخارہ نیست

"کار شر میں استخارہ کی کوئی حاجت نہیں۔"

بلکہ اس کے لئے استخارہ جائز ہی نہیں

در کار شر رخصت ہیج استخارہ نیست

"کار شر میں استخارہ کی کوئی رخصت نہیں۔"



## ۷ اصول علاج:

علاج شروع کرنے سے پہلے خوب غور و فکر کر کے کوئی متوسط قابل اعتماد علاج منتخب کیا جائے پھر کوئی دوا بھی اس سے پوچھے بغیر استعمال نہ کی جائے اور علاج بھی اسی کا جاری رکھا جائے، بدلا نہ جائے، یہ سوچ کر مطمئن رہیں کہ ہم نے اللہ کے قانون کے مطابق علاج شروع کر دیا ہے آگے نتیجہ اللہ کے سپرد ہے، ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہیں: "یا اللہ! ہم نے تجھے قانون کے مطابق علاج شروع کر دیا ہے شفاء تجھے قبضہ میں ہے، علاج کر رہے ہیں تجھے حکم کی تعمیل کے لئے تو اپنی رحمت سے شفاء عطا فرما۔" علاج جلدی نہیں بدلنا چاہئے البتہ اگر اس علاج سے فائدہ نہ ہونا بالکل واضح ہو جائے تو بدل سکتے ہیں۔

ایک حکیم صاحب بہت صالح تھے، عالم بھی تھے اور حکمت میں بھی بہت ماہر تھے۔ وہ "شریت دانشاد" بنایا کرتے تھے، یہ شریعت صحت و قوت کے لئے بہت مشہور تھا۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی دو بوٹلیں حضرت حکیم الامتہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرنے کے لئے لے گئے، حضرت حکیم الامتہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ اس کے اجزاء کیا ہیں؟ والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ شاید اجزاء دریافت فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی مشتبہ دوا نہ ہو، اس لئے عرض کیا کہ اس کے اجزاء کا مجھے علم نہیں لیکن اس کے بنانے والے بہت متقی اور عالم ہیں اس لئے اس میں کوئی مشتبہ چیز نہیں ہوگی۔ حضرت حکیم الامتہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس لئے نہیں پوچھ رہا کہ اس میں کوئی مشتبہ چیز ہوگی بلکہ اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ میں اپنے خاص طبیب سے پوچھے بغیر کوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاتما سے ہی حکیم صاحب کو خط لکھا کہ ایسی صورت پیش آگئی ہے اس لئے آپ اس کے اجزاء لکھ دیں، انہوں نے اجزاء لکھ کر بھیج دیئے۔ آگے مجھے یاد نہیں کہ حضرت حکیم الامتہ

رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ شربت قبول فرمایا یا نہیں۔

## ۸) اسباب کی ناکامی ذریعہ توکل:

اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ بسا اوقات اسباب کو ناکام فرما کر اپنے بندوں کو توکل کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی سبب سوزی اور سبب سازی سے بڑے بڑے عقلمند حیران و سرگرداں ہیں۔

از سبب سوزیش من سودائیم  
 وز خیالائش چو سوسفطائیم  
 از سبب سوزیش من حیران شدم  
 وز سبب سازیش سرگردان شدم

مشغولی میں ایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ اسے اپنی باندی سے بہت محبت تھی، وہ بیمار ہو گئی بہت علاج کئے گئے کوئی فائدہ نہ ہوا، بادشاہ کے ہاں کس چیز کی کمی تھی، شاہی اطباء اور ہر قسم کے اسباب ناکام ہو گئے تو بادشاہ نے مسجد کا رخ کیا اور وہاں جا کر مستبب الاسباب سے دعاء میں مشغول ہو گیا۔

شہ چو بجز آن طیبیان را بدید  
 پا برہنہ جانب مسجد دودید  
 رفت در مسجد سونے محراب شد  
 سجدہ کہ از اشک شہ پر آب شد

"بادشاہ نے جب ان طیبیوں کے بجز کو دیکھا تو برہنہ پاؤں مسجد کی طرف بھاگا، محراب میں جا کر سجدہ میں اتنا رویا کہ سجدہ کی جگہ آنسوؤں سے بھر گئی۔"

اس حالت میں یوں دعاء کی۔

اے پناہ ما حرم کوئے تو  
اے امن ہامیدے رمیدم سوئے تو

”اے اللہ! تیری گلی ہی ہماری پناہ گاہ ہے، میں بہت بڑی امید  
لے کر تیری طرف بھاگا ہوں۔“

اللہ تعالیٰ کی رحمت نے دھکیری فرمائی غیب سے ایسا سامان فرما دیا کہ باندی مکمل  
شفایاب ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تمام تر اسباب کو ناکام بنا کر اپنی طرف کھینچ لیا، غرضیکہ  
اسباب کا ناکام ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر کبھی بھی کوئی سبب بھی ناکام  
نہ ہوتا بلکہ ہر سبب پر ہمیشہ اثر مرتب ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ پر توکل بہت مشکل سے  
ہوتا۔ اس زمانے میں اسباب کی مسلسل ناکامیاں دیکھتے ہوئے آنکھوں سے مشاہدات  
کرتے ہوئے بھی اللہ کی طرف نظر نہیں جاتی، اگر اللہ تعالیٰ اسباب کو ناکام فرما کر  
توکل کا سبق نہ دیتے تو توکل پیدا کرنا کتنا مشکل ہوتا۔

## ⑨ توجہی الی ربک:

ایک بار حضرت اقدس کی انگشت شہادت میں وقفہ وقفہ سے کچھ درد کی لہر اور  
غیر ارادی حرکت ہونے لگی، جب بھی یہ عارضہ شروع ہوتا آپ انگلی کو خطاب کر  
کے فرماتے:

﴿توجہی الی ربک﴾

”اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا۔“

تو اسے فوراً سکون مل جاتا، اس وقت سے حضرت اقدس کا معمول بن گیا کہ  
کسی عضو میں بھی ذرا سی کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اسے انہی الفاظ سے  
خطاب فرماتے ہیں۔

## ⑩ هل انت الا اصبع دمیت:

حضرت اقدس ناٹن بہت گہرے تراشے ہیں حتیٰ کہ ایک بار پاؤں کی ایک انگلی سے خون نکل آیا، کسی نے پوچھا کیا ہوا تو آپ نے فورا برکت انگلی کو خطاب کر کے فرمایا:

هل انت الا اصبع دمیت  
ولی سئل اللہ مالقت

”تو ایک انگلی ہی تو ہے جس نے خون بہایا ہے اور تجھے یہ جو تکلیف پہنچی ہے اللہ کی راہ میں ہے۔“

جامع عرض کرتا ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی غزوہ میں انگلی مبارک زخمی ہو گئی تھی خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر یہی کلمات فرمائے:

هل انت الا اصبع دمیت  
ولی سئل اللہ مالقت

حضرت اقدس کا یہ عمل نظر ظاہر میں تو معمولی سا ہے مگر اہل بصیرت کے لئے

اس میں معرفت کے کئی اسباق ہیں:

① حضرت اقدس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی قسم کی مشابہت کا کہیں بھی کوئی موقع مل جائے تو اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔

② ایسے معمولی سے واقعات کو بھی توجہ الی اللہ میں ترقی کا ذریعہ بناتے ہیں۔

③ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمات کے لئے چن لیا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجاہدین کی فہرست میں لکھ لیا جاتا ہے۔

لَا رَمَّ يَدَاهُ وَاللَّهُ يَأْتِيهِ الْوَيْلُ وَاللَّيْلُ وَالنُّجُومُ سَاقِطَةٌ

عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصلحين  
وحسن اولئك رفيقا ﴿٣﴾ (۶۹ - ۳)

”اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص  
بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام  
فرمایا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور علماء اور یہ  
حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔“

﴿والذين امنوا بالله ورسوله اولئك هم الصديقون  
والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ولنورهم﴾ (۵۷ - ۱۹)

”اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں  
ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان  
کے لئے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔“

حضرت اقدس تو ظاہر بھی پوری دنیا میں جہاد کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔

⑩ جہاد کے امور طبعیہ پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطاء فرماتے ہیں۔

## ⑪ اس زمانے کے عاشق:

سرحد سے ایک مرید حضرت اقدس سے فون پر رابطہ رکھتے تھے، حضرت اقدس  
کو جب آواز بیٹھنے کا عارضہ ہوا تو آپ نے فون پر بات کرنے کا سلسلہ بند کر دیا ان  
دنوں میں انہوں نے دارالافتاء میں فون کیا اور فون اٹھانے والے کے ذریعہ حضرت  
اقدس کو سلام اور یہ شعر پیش کیا۔

ان کو مد نظر ہوا پر وہ  
احل دل اب کہو کہہ جاؤں

حضرت اقدس کے سامنے جب یہ پرچہ پہنچا تو بڑھ کر فرمایا کہ یہ ہیں آج کل کے

عاشق، میں نے پردہ کہاں کیا ہے میں تو یہاں مجلس میں روزانہ دو بار بیٹھتا ہوں، عاشق صاحب یہاں تشریف لانے کی زحمت نہیں فرما سکتے۔

### ۱۲) ادائے بے نیازی:

ایک مولوی صاحب اقامت میں تخلص کے شعبہ میں پڑھتے تھے، وہ جس کاپی میں فتاویٰ لکھتے تھے اس کے سرورق پر حضرت اقدس کو دکھانے کے لئے انہوں نے یہ شعر لکھا ہوا تھا۔

زمانہ مر مٹا تیری ادائے بے نیازی پر  
کسی کا حال سنتے ہیں نہ کوئی بات کہتے ہیں

وہ اپنے لکھے ہوئے فتاویٰ کی اصلاح کے لئے یہ کاپی بار بار حضرت اقدس کے سامنے لاتے تھے، انہوں نے یہ شعر حضرت اقدس کی دنیا داروں سے ادائے بے نیازی کی تحسین کرنے کے لئے لکھا تھا اور یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ انہیں حضرت اقدس کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ حضرت اقدس نے ان کے اس عمل پر بھی کبھی کوئی توجہ نہ دی، بار بار نظر پڑنے کے باوجود کبھی ان سے کچھ پوچھا نہیں۔ بعد میں انہیں بتایا کہ میں آپ کے اس عمل پر بہت خوش ہوں اس لئے کہ آپ نے میرے پاس آکر کچھ حاصل کر لیا ہے، میری یہ بے نیازی صرف دنیا داروں سے ہے طالبین دین سے نہیں جیسا کہ آپ لوگ خود دیکھ ہی رہے ہیں، دنیا داروں سے بھی استغناء اور بے نیازی انہی کی اصلاح کے لئے ہے۔ (اس بارے میں انوار الرشید جلد ثانی باب "غیر اللہ سے استغناء" میں عنوان "ایک مسکین اور ایک نواب کی ملاقات پر" دیکھیں۔ جامع)

### ۱۳) دستخط کا طرز تحریر:

اپنے دستخط ہمیشہ ایسے واضح کرنے چاہئیں کہ ہر شخص سہولت سمجھ جائے۔ آج

کھل کے فیشنوں میں سے ایک فیشن یہ بھی چل پڑا ہے کہ دستخط ایسے ٹیز سے میز سے اور گھما پھرا کر کرو کہ کوئی پڑھ ہی نہ سکے، اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اس ضرورت سے ایسا کرتا ہے کہ کوئی نقل اتار کر فریب نہ دے تو یہ تو ایک صحیح مصلحت ہے لیکن اسے عام فیشن بنا لینا غلط ہے، البتہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا میں ایسا بلند مقام عطا فرمایا ہو کہ وہ اپنے لئے کوئی خاص علامت معین کر لے تو سب لوگ سمجھنے لگیں کہ یہ فلاں کی علامت ہے ایسی صورت میں اس قسم کے دستخط کی نوعیت بنا لینا جائز ہے، مثال کے طور پر حضرات خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بعد کے ائمہ دین رحمہم اللہ تعالیٰ ہر لگانے کے لئے انگوٹھی پر اپنے نام کی بجائے نصیحت کے مختلف کلمات لکھواتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر: کفنی بالسوت واعظا۔ لکھا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر: السلک اللہ۔ لکھا ہوا تھا اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی انگوٹھی پر: قل الخیر والافسکت۔ لکھوایا ہوا تھا، پوری دنیا کو اس کا علم ہو جاتا تھا کہ یہ فلاں کی مہر ہے، مقصد حاصل ہو گیا، یہی حکم دستخط کا ہے مقصد تو یہ ہے کہ عوام کو پتا چل جائے کہ یہ فلاں کے دستخط ہیں۔

## (۱۳) علماء کے لئے افضل ترین ذریعہ معاش:

علماء کو چاہئے کہ خدمات دینیہ میں ہی وقت لگائیں اور کوئی دوسرا ذریعہ معاش اختیار نہ کریں، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا جو ذریعہ معاش تھا یعنی خدمت دین علماء اسی کو اختیار کریں۔ جب یہ اس کام میں لگ جائیں گے تو یہ سرکاری آدمی بن گئے سرکار خود ہی ان کی کفالت کرے گی۔ لوگوں سے بے نیاز ہو کر اور دنیوی ذرائع معاش سے مستغنی ہو کر دین کے کام میں لگ جائیں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ (اس کی تفصیل و حواشی "مبت الہیہ" میں دیکھیں۔ جامع)

## ①۵ انوار الرشید اسباق معرفت:

میں اپنے تمام متعلقین کو تاکید سے وصیت کرتا ہوں کہ ”انوار الرشید“ کو بہت غور سے پڑھا کریں بلکہ بار بار پڑھتے ہی رہیں، روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں اس لئے کہ اس میں دور حاضر میں پیش آنے والے حالات اور ان میں اختیار کی جانے والی تدابیر اور حفاظت دین کے بہت اکسیر لکھے ہیں اور بے دینی کے سیلاب کے مقابلے میں ہمت بلند کرنے کی تدابیر ہیں۔

مکہ مکرمہ میں سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے جن کا ہسپتال میں ہر وقت موجود رہنا قانوناً ضروری تھا، تھوڑی دیر کے لئے بھی کہیں جائیں تو اجازت لے کر جائیں۔ انوار الرشید جب پہلی بار مختصر سی چند صفحات میں چھپی تو وہ روزانہ چار پانچ منٹ کے لئے میرے پاس میری رہائش گاہ میں آتے تھے۔ پہلی بار آکر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اور میری اہلیہ اسے باری باری پڑھتے ہیں پھر اس سے حاصل ہونے والے اسباق ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ پھر وہ روزانہ کے اسباق آکر مجھے بتاتے تھے کہ آج ہم نے یہ یہ پڑھا یہ سنی حاصل کیا۔ اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ درحقیقت یہ سوانح نہیں بلکہ بہت اہم ہدایات اور بہت قیمتی اسباق ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کا مجھ سے اصلاحی تعلق نہیں تھا اس کے باوجود ان کے اور ان کی اہلیہ کے قلب میں اس کی اتنی اہمیت تھی کہ شب و روز ہسپتال میں مشغول رہنے کے باوجود میاں بیوی دونوں کتاب کو کیسے اہتمام سے دیکھتے پھر ایک دوسرے کو سناتے پھر اس کے مضامین یاد کر کے روزانہ مجھے آکر بتاتے۔ جب ان کے قلب میں اتنا اہتمام تھا تو جو اصلاحی تعلق رکھتے ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس کے بلاناغہ مطالعہ کو لازم پکڑیں۔ اس سے نصیحت حاصل کرنے اور اپنے حالات کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔



## ①۶ اللہ کے بندوں کے لئے رحمت کی دعاء:

میں روزانہ ہر نماز کے بعد تین بار اور اس کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی اللہ کے سب بندوں کے لئے یہ دعاء مانگتا ہوں:

﴿اللہم ارحم عبادک﴾

"یا اللہ! تو اپنے سب بندوں پر رحم فرما۔"

بالخصوص روزانہ کم از کم دو بار پھت پر سے باہر دیکھتا ہوں اور سامنے آبادی بھی ایسی ہے کہ ہر وقت چہل پھل رہتی ہے انہیں دیکھ کر بھی یہی دعاء مانگتا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنے لئے یہ دعاء کرتا ہوں:

"یا اللہ! تو نے اپنی مخلوق کے بارے میں میرے دل میں جو یہ

رحمت رکھی ہے کہ میں ان کے لئے رحمت کی دعاء مانگتا رہتا

ہوں اس کے صدقہ سے مجھ پر رحم فرما۔"

پھر دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں:

اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ "یا اللہ! میرے دل کو اپنے

دین پر ثابت و قائم رکھ۔" میرے قلب و قالب پر رحمت

نازل فرما: اللہم اسبغ علی من رحمتک والنزل علی من

برکتک۔ یا اللہ! مجھ پر اپنی رحمت بہاڑے اور مجھ پر اپنی

برکتیں نازل فرما۔

## ①۷ دنیوی نعمتیں شوق و وطن کا ذریعہ:

اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کو رغبتِ آخرت پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے ان سے

شوق وطن آخرت پیدا کرنے کی تین وجوہ ہیں:

① نعمتوں سے منعم کی طرف توجہ جانا اور اس سے محبت پیدا ہونا فطری امر ہے اس لئے اللہ کے بندوں کو نعمتوں میں منعم کا جلوہ نظر آتا ہے ۔

ما در پیالہ عکس رخ یار دیدہ ایم  
اسے بے خبر زلذت شرب دوام ما

② دنیا کی نعمتیں جنت کی نعمتوں کا نمونہ ہیں جب انسان سوچتا ہے کہ ان نعمتوں میں کتنی لذت ہے تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچے گا کہ اس سے کہیں زیادہ ان میں لذت ہوگی تو ان کی رغبت بڑھے گی ۔

جرعہ خاک آمیز چون مجنون کند  
صاف گر باشد ندانم چون کند

③ اگر دنیا میں کسی کے پاس کوئی نعمت موجود نہ ہو مگر ملنے کی توقع ہو تو وہ اس ادنیٰ سی توقع پر ہی بہت خوش ہوتا ہے اور ابھی سے استلذاذ شروع کر دیتا ہے، اس پر یہ سوچے کہ اللہ کے بندے کے لئے جنت کی نعمتیں تو یقینی ہیں اور وہ کوئی زیادہ دور نہیں بس ابھی ملیں ۔

اگرچہ دور افتادم بدین امید فرخندم  
کہ شاید دست من باروگر جانان من گیرد

## ⑱ دنیوی تعلیم یافتہ اسلام کے دشمن:

دنیوی تعلیم والے جاہلوں کی بنسبت کئی گنا زیادہ بدتر ہیں، اسلام سے دشمنی میں پیش پیش ہیں انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے، یہ حقیقت بالکل کھلے مشاہدات اور تجربات سے بالکل عیاں ہے۔ اب سے صدیوں پہلے فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ اسلام کے دشمنی میں جاہلوں سے بھی بڑھ کر

ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

والجاہلون لاہل العلم اعداء

”جاہل لوگ اہل علم کے دشمن ہوتے ہیں۔“

اس کی تشریح میں علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”جاہلوں میں دنیوی تعلیم یافتہ بھی داخل ہیں بلکہ جاہلوں سے

بھی بڑھ کر ہیں۔“

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ تحریر فرمائی ہے:

”علماء کی ہدایات، فیصلے اور فتاویٰ جاہلوں کی خواہشات نفسانیہ

کے خلاف پڑتے ہیں اس لئے وہ علماء کے دشمن ہو جاتے

ہیں۔“

فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تو اس وقت کے لوگوں کے بارے میں ہے

اب تو روز بروز بلکہ لمحہ بلمحہ ان لوگوں کی اسلام دشمنی بڑھ رہی ہے۔

## ⑱ دنیا سے بے رغبتی:

مجھے اپنی خود خریدی ہوئی چیزوں کی قیمت بھی یاد نہیں رہتی خواہ وہ چیز کتنی ہی

زیادہ قیمتی ہو۔ کسی زمانے میں قلم، گھڑی اور گاڑی کی قیمت کچھ دنوں یاد رہتی تھی

اس لئے کہ یہ جہاد اور دوسری خدمات دینیہ میں کام آتی ہیں۔ میرا قلم تو بِنَصْرِ اللہ

تعالیٰ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے لیکن اب مجھے ان چیزوں کی قیمت بھی یاد نہیں

رہتی۔

میں چڑی سوزوں کے ساتھ سہولت کے لئے پشاور کی چیل پہناتا تھا ایک بار نئی

چیل خریدی تو چونکہ چیل کے پیچھے کی جانب جو پٹی ہوتی ہے اس کے ناکے جلد ہی کھل جاتے ہیں اس لئے حفظاً مائتدّم کے طور پر میں پہلے ہی اس پٹی میں رہیں لگوانے سوچی کے پاس چلا گیا۔ سوچی نے دیکھ کر کہا بہت عالیشان چیل ہے۔ کتنے کی لی؟ میں نے کہا مجھے یاد نہیں حالانکہ وہ چیل ابھی بالکل نئی تھی اور بہت قیمتی تھی میرا یہ جواب سن کر سوچی کہنے لگا کہ ہاں جی اجنبی اللہ بے حساب دے انہیں چیزوں کی قیمتیں کہاں یاد رہتی ہیں۔

### (۲۰) اپنا سامان اپنے پاس:

بسا اوقات لوگ سفر میں اپنا سامان اپنے پاس نہیں رکھتے خود بیٹھ گئے ایک گاڑی میں سامان ہے دوسری گاڑی میں، آگے چل کر دوسری گاڑی کو کوئی عارضہ پیش آیا وقت پر نہیں پہنچ پائی یا پاسپورٹ اور ٹکٹ وغیرہ جس کے پاس ہے وہ بیٹھ گئے دوسری گاڑی میں اور وقت پر نہیں پہنچ پائے تو بہت پریشانی ہوتی ہے، بسا اوقات کہیں کسی مجلس میں جاتے وقت کسی نے حفاظت کے لئے جو تا اٹھالیا اور مخدوم کو معلوم ہی نہیں کس نے اٹھایا ہے بعد میں تلاش کرنے میں سرگرداں رہتے ہیں کہ جو تا کس کے پاس ہے اور جس کے پاس ہوتا ہے وہ کہیں غائب۔ ایک بار ایران کے سفر میں میں نے اپنا کچھ قیمتی سامان اس خیال سے زاہدان میں چھوڑ دیا کہ واپسی پر یہاں سے لے لیں گے لیکن واپسی کسی دوسرے راستے سے ہوئی تو وہ سامان وہیں رہ گیا۔

لطیفہ: کوئی مسافر کسی درخت کے نیچے ٹھہرا پھر اسے درخت پر چڑھنے کا شوق ہوا تو اپنا جھولا بھی ساتھ اٹھالیا کسی نے کہا کہ اسے نیچے چھوڑ جاؤ اتر کر لے لینا، اس نے کہا کیا معلوم اوپر سے ہی کہیں چلا جاؤں۔

## ۴۱) جاہلِ صوفیِ مریضِ وہم:

شریعت کا اصول ہے کہ جب تک کسی چیز کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو جائے اسے نجس سمجھنا جائز نہیں مگر اس زمانے کے جاہلِ صوفی ذرا ذرا سی بات پر گلاں چیز نجس ہے، گلاں چیز حرام ہے، ایسی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کے ساتھ کسی سفر میں تھے وضوء کے لئے پانی کی ضرورت پیش آئی ایک پھونے سے گڑھے میں پانی تھا آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے وہاں موجود کسی شخص سے پوچھا کہ اس میں کسی درندے وغیرہ نے تو منہ نہیں ڈالا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیب فرمائی کہ مت پو پھو حالانکہ باہر جنگل وغیرہ میں تو کسی درندے وغیرہ کے منہ ڈالنے کا بہت گمان ہوتا ہے۔ آج کل کئی جاہلِ صوفی باہر سے آنے والی مختلف چیزوں کے بارے میں پمفلٹ اور پھونے موٹے رسالوں میں شائع کرتے رہتے ہیں کہ گلاں چیز نجس گلاں حرام ان کی فہرستیں شائع کرتے رہتے ہیں۔ میں جب مغربی ممالک میں گیا تو وہاں لندن میں کسی مفتی صاحب نے ان جاہلِ صوفیوں کی ان لغویات کے رد میں فتویٰ لکھ کر تصدیق کے لئے مجھے دکھایا مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اس پر تصدیق لکھ دی۔ یہ وہی لوگ اپنی بات کچی کرنے کے لئے بطور شہادت کسی کا مضمون بھی شائع کرتے ہیں کہ اس نے گلاں گلاں کہینی میں جا کر خود دیکھا ہے یا وہاں کے ذمہ داروں سے خود تحقیق کی ہے جس کی بناء پر گلاں گلاں چیز نجس یا حرام ہے یہ جاہل اور وہی لوگ ہیں جو بد قسمتی سے صوفی بھی بن گئے اگر علما جاہل ہوتا تو وہ ایسی تحقیقات کے بارے میں علماء سے رجوع کرتا لیکن چونکہ یہ بزمِ خودِ صوفی بھی ہیں اور صوفی بھی بڑے اس لئے تحقیق کے شرعی طریق کار معلوم کرنے کے لئے کسی عالم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

قصہٴ عبرت: حضرت مولانا تاج محمود صاحب امری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی

وہی صوفی پہنچ گیا، آپ کے گھر سے اس کے لئے کھانا آیا تو اس نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ میں اپنے پاس پنے رکھتا ہوں دو سروں کے گھروں کا کھانا مشکوک ہوتا ہے اس لئے میں نہیں کھاتا۔ مولانا نے فرمایا کہ تو نے یہ پتے کہاں سے لئے ہیں؟ اس نے کسی بٹے کا نام بتایا کہ اس کی دکان سے لئے ہیں، مولانا نے اس بٹے کو بلوایا، قصبہ کے سب ہندو وغیرہ بھی آپ کے بہت معتقد تھے، وہ بنیاداً حاضر ہوا تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ ابھی ایک دو روز میں تھری دکان پر جو پتے آئے ہیں وہ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا کہ ایک میٹکسواڑ (بھاروں جیسی ہندو قوم) نے میرے پاس بیچے ہیں تو مولانا نے اس میٹکسواڑ کو بلوایا اس سے پوچھا کہ تو نے یہ پتے کہاں سے لئے؟ اس نے کہا کہ ہم نے ایک خنزیر کا شکار کیا تھا جب اسکا پیٹ چیرا تو اس میں سے یہ پتے نکلے۔ مولانا نے فرمایا کہ ارے صوفی! تجھے میرے گھر کا کھانا مشکوک نظر آ رہا ہے اور خنزیر کے پیٹ سے نکلے ہوئے پتے کھا رہا ہے، یہ ہے تیرا تقویٰ، کچھ خبر لے اپنے تقویٰ کی۔

## ۴۲) ایک اہم مسئلہ:

ایک مسئلہ بہت ہی زیادہ اہم ہے لیکن اس سے عوام و خواص بلکہ بہت سے علماء بھی بہت غفلت میں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملازم پر جتنا وقت مسمیٰ تھا اس نے اگر پورا وقت نہیں لگایا تو جتنا کم لگایا ہے اس مقدار کی تنخواہ اس کے لئے حرام ہے، اس کی تین صورتیں ہیں:

- ① اگر وقت میں کمی کی مقدار عرف عام کے مطابق ہو تو پوری تنخواہ حلال ہے۔
- ② اگر عرف عام سے زیادہ ہے لیکن مستاجر کی طرف سے بطیب خاطر اجازت ہو اور اس کی طیب خاطر متیقن ہو تو بھی پوری تنخواہ حلال ہے۔
- ③ اگر ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو تو کمی کی مقدار کے برابر تنخواہ حرام ہے لیکن چونکہ حلال و حرام مخلوط ہونے کا یقین ہے اس لئے پوری تنخواہ

میں سے کسی جزء کا استعمال بھی حلال نہیں۔ حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وقت سے زائد جتنی تنخواہ لی ہے وہ مستاجر کو واپس کرے تو بقیہ تنخواہ حلال ہو جائے گی۔

### (۲۳) مہمان کی تواضع میں جلدی:

لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی ان کے ہاں مہمان آتا ہے تو اسے کھلاتے پلاتے ہیں۔ میرے پاس جب کوئی مہمان آتا ہے تو میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کی تواضع کروں اسی لئے کوئی نہ کوئی دین کی بات اس کے کان میں ڈال دیتا ہوں۔ اس کام میں جلدی کی وجوہ یہ ہیں:

① کار خیر جلدی سے جلدی کرنا چاہئے۔

② اگر ذرا تاخیر کرنے سے میں یا مہمان یا دونوں وطن چلے گئے تو کام رہ ہی جائے گا۔

③ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا اہم کام اچانک پیش آجائے تو بھی یہ کھلانے پلانے کی خدمت تو رہ ہی جائے گی۔

غذائے قالب سے غذائے قلب کی اہمیت بہت زیادہ ہے پھر اگر کسی کو یہ غذاء ہضم ہو جاتی ہے تو وہ سدھر جاتا ہے بار بار آنے لگتا ہے اور جسے ہضم نہیں ہوتی وہ دوبارہ آتا ہی نہیں۔ میں نے یہ سبق حضرت یوسف علیہ السلام سے لیا ہے، آپ کے پاس دو قیدی اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تو آپ نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی اس کے بعد خوابوں کی تعبیر بتائی، ایسے ہی میرے پاس بھی کوئی کسی غرض سے بھی آتا ہے تو میں اسے تبلیغ کرتا ہوں۔

### (۲۳) کسی کی موت کی خبر سننے پر دعاء:

میں جب کبھی اپنے کسی ہم عمر یا کمر عمر کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر سنتا

ہوں تو اپنے نفس سے یوں خطاب کرتا ہوں کہ تو جو اب تک زندہ ہے اس میں تمہارا کیا استحقاق ہے؟ زندگی کے بقیہ لمحات کہیں استدراج تو نہیں پھر دعاء کر لیتا ہوں: "یا اللہ! ان لمحات حیات کو استدراج نہ بنا بلکہ خدماتِ دینیہ اور اپنی رضا میں ترقی کا ذریعہ بنا۔"

## ④۵ عزم و ہمت سے ہر مشکل آسان:

جوانی کی نیند مشہور ہے لیکن میں بھرپور جوانی میں بھی ذرا سی آواز سے بیدار ہو جاتا تھا بلکہ اگر کمرے کے دروازے یا کھڑکی کے سامنے سے بھی کوئی گزر جاتا تو میری آنکھ کھل جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت یہ بھی تھی کہ میں جتنی دیر کے لئے سونا اور جتنے بجے اٹھنا چاہتا تھا بالکل اتنے بجے از خود آنکھ کھل جاتی تھی کسی الارم کی قطعاً کوئی ضرورت نہ تھی حتیٰ کہ بسا اوقات دس منٹ بھی مل جاتے تو میں اتنی دیر میں بھی سو لیتا اور بیدار بھی ہو جاتا، بس اتنی سی دیر میں ہی سونے کا مقصد "اعصابی سکون" مکمل طور پر حاصل ہو جاتا تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مشاغل بہت بڑھا دیئے ہر وقت ہما ہی اور شور و غل کا عالم پیدا ہو گیا تو مجھے سونے میں بہت مشکل پیش آئی، میں نے یہ عزم کر لیا کہ آئندہ کتنا ہی زیادہ شور کیوں نہ ہو میں اپنا سونے کا معمول اداء کر کے پھوڑوں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی متوجہ ہوئی کہ اس کے بعد سے میرے سونے کے جو اوقات ہیں ان میں کچھ بھی ہوتا رہے کتنا ہی زیادہ شور کیوں نہ ہو تو بھی میں بہت آرام سے اپنا سونے کا معمول اداء کرتا ہوں۔

## ④۶ فہم و تفہیم:

کسی اہم موضوع پر اجتماعی غور و فکر کرنے کو عام طور پر افہام و تفہیم کہتے ہیں، یہ غلط ہے اس لئے کہ ان دونوں لفظوں کے معنی ہیں "سمجھانا" اس کا مطلب یہ



ہوا کہ جانیں میں سے ہر شخص دوسرے کو سمجھنا چاہتا ہے دوسرے کی بات سمجھنا نہیں چاہتا۔ ایسا مکالمہ شرعاً و عقلاً دونوں لحاظ سے ممنوع ہے۔ صحیح الفاظ ہیں ”فہم و تقسیم“ فہم کے معنی ”سمجھنا“ تقسیم کے معنی ”سمجھنا“۔ لفظ فہم کو مقدم رکھنا چاہئے اس لئے کہ کسی بات پر اجتماعی غور و فکر کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی بات دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کی بجائے اس کی بات سمجھنے کی زیادہ کوشش کرے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ اپنے تواضع کا اظہار ہے جو دوسرے کی سرت کا ذریعہ ہے۔ اس طرح آپس میں التواضع صدر اور محبت سے بات ہوگی۔

### ۴۷) بلا ضرورت بولنا لغو ہے:

آج کل لوگ ایک دوسرے کے خیالات معلوم کرنے اور ان پر تبصرہ کرنے کے مشغلہ کو ”تبادلہ خیال“ کہتے ہیں۔ اس میں کئی غلطیاں ہیں:

- ۱) لفظ تبادلہ غلط مشہور ہو گیا ہے، صحیح لفظ ”سبادلہ“ ہے۔
- ۲) خیال کے تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنا صحیح خیال دوسرے کو دے دیں اور دوسرے کا باطل خیال خود لے لیں، اس کا غلط ہونا بالکل ظاہر ہے۔
- ۳) لوگ جب کہیں فارغ ہوتے ہیں تو وقت گزارنے کے مشغلہ کے طور پر ایسے کلام کرتے ہیں جن میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، اسے لغو کہتے ہیں جس سے شریعت نے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے حالات میں ان کی ایک صفت یہ بھی بیان فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ (۲۳ - ۲۴)

”وہ لغویات سے بچتے ہیں۔“

احادیث میں بھی زبان کی حفاظت کی بہت تاکید ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے ارکان اور دوسرے

بہت سے احکام بتانے کے بعد ارشاد فرمایا: کیا اب تمہیں ان احکام کا لب لباب اور ان کا اہم ترین جزء نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی اور فرمایا:

﴿كف عليك هذا﴾

”اسے اپنے قابو میں رکھو۔“

یعنی غلط جگہ استعمال نہ ہونے دو، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ! کیا ان زبانی باتوں پر بھی ہم سے مؤاخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: معاذ! تمہیں تمہاری ماں گم کرے (کلمہ تنبیہ ہے) قیامت کے دن زبانوں کی کھیتوں کی وجہ سے لوگ اونڈھے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے (احمد، ترمذی، ابن ماجہ) ایک اور حدیث میں ہے:

﴿من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل عبرا

اویسکت﴾ (متفق علیہ)

”جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ بولے تو اچھی بات بولے اور اگر کوئی اچھی بات ذہن میں نہیں آتی تو خاموش رہے بولے ہی نہیں۔“

②۸ طویل عمر ہونے پر دعاء:

میرے بھائیوں میں سے کسی کی بھی عمر چھتر سال سے زیادہ نہیں ہوئی۔ میں اپنی عمر چھتر سال ہونے سے پہلے اکثر سوچتا رہتا تھا کہ ابھی گئے ابھی گئے بلکہ یہ تصور تو قائم ہو گیا تھا تریسٹھ سال کی عمر ہی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے زیادہ دنیا میں رہتے ہوئے شرم آنے لگی تھی لیکن چھتر سال بھی پورے ہو گئے

تو اپنے نفس سے بار بار یوں خطاب کرتا ہوں کہ سب بھائی تو اس عمر میں رخصت ہو گئے تو جو اب تک زندہ ہے اس میں تیرا کیا استحقاق؟ پھر سوچتا ہوں کہ یہ استدراج ہے یا اللہ کی رحمت؟ پھر یہ دعا بھی کر لیتا ہوں کہ یا اللہ! استدراج سے حفاظت فرما اور زندگی کے ہر آئندہ لمحہ کو گزشتہ سے بہتر بنا۔

جینا چاہوں تو کس بھروسے پر  
زندگی ہو تو ہر در محبوب

### (۴۹) تفقہ فی الدین:

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا:

﴿ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم﴾ (۲-۱۲۹)

اس میں جو پہلی بات ہے ”کتاب کی تعلیم“ اور تیسری بات ”تزکیہ نفس“ ہے دونوں باتیں تو ظاہر ہیں، درمیان کی بات ”حکمت کی تعلیم“ یہ حکمت کیا چیز ہے؟ اس کے لغوی معنی ہیں ”روکنا“ مطلب یہ کہ افراط و تفریط سے روکنا اور اعتدال پر مضبوط رہنا اس لئے اس کے دونوں معانی آتے ہیں: ”روکنا اور اعتدال پر مضبوط رکنا“ اس پر ایک کلمہ بن گیا:

﴿وضع الشيء في محله﴾

”کسی چیز کو اس کے مناسب موقع میں رکھنا۔“

جیسے ظلم کے معنی ہیں:

﴿وضع الشيء في غير محله﴾

”کسی چیز کو بے موقع رکھنا۔“

یہ جامع تفسیر ہے حکمت کی کہ ہر چیز کو اس کے موقع اور محل کے مناسب

رکعت۔ اسی لئے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا:

﴿وَمِنْ بَيِّنَاتِ الْحُكْمَةِ فَقَدْ آتَتْ حَيْثُ أَكْثَرُ﴾ (۳۶۹-۳۷۰)

اللہ تعالیٰ نے جسے حکمت دے دی اسے بہت بڑی بھلائی دے دی۔ کسی متقی اور متقن کی صحبت سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ بصیرت حاصل ہوتی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ان تَقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾

(۳۹-۸)

اسے تقہ فی الدین بھی کہتے ہیں۔ جن لوگوں میں ایسی حکمت اور تقہ نہیں ہوتا وہ اپنے زعم میں کئی کاموں کو دین سمجھ کر کرتے ہیں حالانکہ درحقیقت وہ دین کے خلاف ہوتے ہیں، اس کی مثال: کسی شخص نے کہیں پتے کا دارا تاپایا وہ مالک تک پہنچانے کے لئے اعلان کر رہا ہے کہ یہ کس کا ہے، ایسے شخص کے بارے میں حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اسے تعزیر لگائی جائے، وجہ یہی ہے کہ ایسا کرنا تقہ فی الدین کے خلاف ہے دو وجہوں سے:

- ① ایسی معمولی چیز کے بارے میں یقین ہے کہ مالک کو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی وہ چیز ملے نہ ملے، یہ ایسی چیز کو افشا کر اعلان کر رہا ہے اپنا تقویٰ بگھار رہا ہے۔
- ② مالک کی تلاش میں جو وقت، مشقت اور مصارف خرچ کر رہا ہے ان کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ اس پر میرے دو قہے:

- ① میں سفر میں بھی خلال اپنے ساتھ لے جاتا ہوں جنہیں رکھنے کے لئے ایک مخصوص قسم کی ڈبیہ ہے۔ ایک بار میں خلال کی ڈبیہ مکہ مکرمہ میں بھول آیا۔ وہاں سے میزبان کا خط آیا کہ آپ یہاں ڈبیہ بھول گئے ہیں ہم نے محفوظ رکھ لی ہے۔ میں نے انہیں لکھا کہ اسے محفوظ رکھتے پر آپ کی جو منت وغیرہ ہوگی اس کی قیمت اس ڈبیہ سے زیادہ ہے، اس لئے آپ کے کام کی ہو تو استعمال کریں کام کی نہ ہو تو

پھینک دیں۔ اس کے باوجود چونکہ ان میں تعلقہ نہیں تھا اس لئے انہوں نے تورع  
 اسی میں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھا پھر بہت دنوں بعد یہاں آئے تو ساتھ لے آئے۔  
 ۳۰ میں نے ایک عطار سے ایک دواء منگوائی وہ کچھ بیچ گئی تو خیال آیا کہ یہ ضائع نہ  
 جائے عطار کو واپس کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں خیال آیا کہ اگرچہ یہ عطار کے کام کی  
 تو ہے مگر اتنی قیمتی نہیں کہ اس کی توجہ اس کی طرف ہو اور اس دواء کو وہاں  
 پہنچانے کے لئے جو شخص جائے گا اس کا وقت، محنت اور پیڑوں بھی خرچ ہوگا  
 بالخصوص جبکہ یہاں سب دینی کاموں میں مصروف ہیں جن کا وقت بہت قیمتی ہے،  
 دونوں کا قتل کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ واپس بھیجنا جائز نہیں اگر ہمیں کسی کے  
 کام آجاتی ہے تو صحیح ہے ورنہ پھینک دی جائے۔

### ۳۰) تنعم پر جہاد کو ترجیح:

ایک عقیدت مند نے پلانٹیم کی گھڑی خرید کر ہدیہ دینے کی درخواست کی حضرت  
 اقدس نے اس کی قیمت دریافت فرمائی تو انہوں نے گیارہ لاکھ بتائی۔ حضرت اقدس  
 نے فرمایا کہ اتنی رقم جہاد میں لگا دیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ جہاد میں تو لگاتا ہی رہتا  
 ہوں، حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ بھی جہاد ہی میں لگا دیں۔

### ۳۱) مستشار صالح ہونا ضروری ہے:

فرمایا: میں بعض اہم امور میں احباب سے مشورہ کرتا ہوں اور شرعاً و عقلاً یہ  
 بات ثابت ہے کہ مستشار صالح ہونا چاہئے مگر علماء میں بھی فرق مراتب ہوتا ہے،  
 اس لئے مستشار کو خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہئے کہ کس کے مشورے پر عمل  
 کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے:

”آپ ایسے لوگوں سے مشورہ کیجئے جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔“

اعطوہ کی اہمیت اور اس کی تفصیل حضرت ائمہ کے وعظ و سنجیدہ اور  
 اعجاز اور حضرت ائمہ کے رسالے "مقامات امیر" میں ملاحظہ فرمائیے۔ (صفحہ ۱۰)

### ۳۳) انخیزاء کے ذریعہ مساکین کی مدد:

بہت سے عام اپنی تہارت میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں لیکن اپنی ضروریات کے  
 فریبے میں داخل نابلد ہوتے ہیں، داخل ناقص اور ناگوار چیزیں بہت زیادہ قیمت میں  
 خرید لیتے ہیں۔ اس میں منہایب اللہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انخیزاء سے مساکین کی  
 مدد کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِمَا دَعَا النَّاسَ بِرُزْقِ اللَّهِ بَعْضُهُمْ مِنْ  
 بَعْضٍ﴾ (صحیح مسلم)

مکوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے خرید و فروخت میں مدد نہ  
 کرے، انہوں کو حق کے صلے پر پھونکا دے، اللہ تعالیٰ حق کے  
 پھیلنے کو اصل سے بدل کر چاہتے ہیں۔

### ۳۴) مہمان میزبان پر پوچھ نہ ڈالنے:

مورتوں میں ایک بہت بڑا عوریا مرض یہ ہے کہ کسی مہمان ہائی ہیں تو اہل  
 عمار سے کام میں نہیں لیں کہ انہیں تمام سے بھیجی رہتی ہیں، سارا بوجھ اہل عمار پر  
 اہل رتقی ہیں۔ اگرچہ یہاں تک تو بات سچی ہے کہ میزبان کو مہمان کا اکرام کرنا  
 چاہئے ان سے کام نہ لیں لیکن مہمان کو بھی دینا ہے شرم نہیں لانا چاہئے کہ پورا  
 بوجھ میزبان پر اہل کہ تمام سے بھاری ہے بالخصوص اگر میزبان کو روتقے کے ہاتھ  
 ہوں اور ایک ہی فرد کو سزا کوئی کام کرنے والا نہ ہو ایسی صورت میں تو بہت ہی  
 بے شرمی اور بے مہمانی ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ میری ایک کجنگی میں یہ لکھی ہے، ۱۰

مشورے کی اہمیت اور اس کی تفصیل حضرت اقدس کے وعظ "استشارہ و استخارہ" اور حضرت اقدس کے رسالے "اطاعت امیر" میں ملاحظہ فرمائیں۔ (جامع)

### ۳۲) اغنیاء کے ذریعہ مساکین کی مدد:

بہت سے تاجر اپنی تجارت میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں لیکن اپنی ضروریات کے خریدنے میں بالکل نااہل ہوتے ہیں، بالکل ناقص اور ناکارہ چیزیں بہت زیادہ قیمت میں خرید لیتے ہیں۔ اس میں منجانب اللہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اغنیاء سے مساکین کی مدد کرواتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿ لا یبیع حاضر لباد دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض ﴾ (صحیح مسلم)

"کوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے خرید و فروخت میں مدد نہ کرے، لوگوں کو ان کے حال پر پھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ان کے بعض کو بعض سے رزق پہنچاتے ہیں۔"

### ۳۳) مہمان میزبان پر بوجھ نہ ڈالے:

عورتوں میں ایک بہت بڑا اور برا مرض یہ ہے کہ کہیں مہمان جاتی ہیں تو اہل خانہ سے کام میں تعاون نہیں کرتیں آرام سے بیٹھی رہتی ہیں، سارا بوجھ اہل خانہ پر ڈال دیتی ہیں۔ اگرچہ یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ میزبان کو مہمان کا اکرام کرنا چاہئے ان سے کام نہ لیں لیکن مہمان کو بھی ایسا بے شرم نہیں بننا چاہئے کہ پورا بوجھ میزبان پر ڈال کر آرام سے بیٹھا رہے بالخصوص اگر میزبان کمزور، بوڑھے یا بیمار ہوں اور ایک ہی فرد ہو دوسرا کوئی کام کرنے والا نہ ہو ایسی صورت میں تو بہت ہی بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ امیری ایک بھتیجی میں یہ شہلی ہے، وہ

کبھی ہمارے ہاں آتی ہیں تو ان کا اسرار ہوتا ہے کہ گھر کا سارا کام وہ کریں گی جب ان کو اجازت نہیں دی جاتی تو کہتی ہیں مجھ سے تو خالی بیٹھا ہی نہیں جاتا بہت شرم آتی ہے۔ ایک بار میں نے کچھ زیادہ کہا کہ آپ بیٹھیں کام نہ کریں تو رو دیں اور بتایا کہ یہ صرف یہاں کی خصوصیت نہیں میں تو جہاں بھی جاتی ہوں اسی طرح کام کرتی ہوں۔

### (۴۳) اسباب رزق کا ادب و احرام:

ضلع ملتان تحصیل خانپوال پیک نمبر ۱۰۱ - ۱۵ اہل جہاں میری ولادت ہوئی اس گاؤں میں حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نمبردار تھے، نمبرداری خود حاصل کی تھی تاکہ گاؤں کی فوائض و منکرات سے حفاظت کر سکیں۔ ایک تو پورے گاؤں پر رعب اس لئے کہ نمبردار تھے اور نمبرداری بھی ایسی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، سرکاری افسر جو آتے تھے وہ بھی آپ سے بہت ڈرتے تھے۔ ایک بار ایک افسر دورے پر آیا، والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت مسجد میں تھے، افسر نے وہاں پیغام بھیجا تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے معمولات پورے کرنے کے بعد ذرا دیر سے پیچھے چونک کر اس افسر کو وہاں دیر تک ٹھہرنا نہیں تھا دوسری جگہ دورے پر جاتا تھا اس لئے گھوڑے سے اترا نہیں گھوڑے کی پشت پر ہی سوار رہا۔ والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب تشریف لے گئے تو اس نے ذرا سخت لہجے سے کہا مولوی جی ایا مسجد رکھو یا نمبرداری، والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی پشت ہی سے گھسیٹ کر اسے نیچے پھینکا اور بہت مارا پھرا سے معطل بھی کروا دیا۔ ایسے رعب کے واقعات سب گاؤں والے دیکھتے ہی رہتے تھے اس کے علاوہ دین و دنیا ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطاء فرمایا تھا ان وجود کی بناء پر لوگوں پر آپ کا بہت رعب تھا۔

میں بچپن میں کھیلتا ہوا قریب میں لوہار کی دکان پر چلا گیا، گاؤں میں لوہار، بڑھئی، ماشکی وغیرہ یہ سب نمبردار کے تابع ہوتے ہیں، نمبردار جسے چاہے نکال دے جسے



چاہے رکھے۔ میں لوہار کی دکان پر چلا گیا چونکہ بہت پھوٹا بچہ تھا تقریباً پانچ چھ سال عمر تھی، سندان پر جا کر بیٹھ گیا۔ لوہار دور بیٹھا ہوا تھا اٹھ کر میرے پاس آیا اور بہت ڈرتے ہوئے بہت ہی لجاہت سے کہنے لگا: یہ ہمارے رزق کا ذریعہ ہے اس پر نہ بیٹھیں۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بلند مقام اور لوگوں پر اس قدر عب و تدبیر کی تفصیل میں نے اسی لئے بتائی کہ لوہار کو مجھے وہاں سے اٹھانے میں کس قدر ہمت کرنی پڑی ہوگی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس کے دل میں ذریعہ معاش کی اتنی قدر تھی اور اس قدر احترام تھا کہ اتنے بڑے صاحب مقام کے بیٹے کو بھی بیٹھنے نہ دیا لیکن آج کل کے مولوی کے دل میں آلات علم دین کی اتنی قدر نہیں، آلات علم کا احترام نہیں کرتے۔ ذرا غور کیجئے کہ پانچ چھ سال کی عمر کا قصہ اب اتنی سال کی عمر تک بھی یاد ہے اور آخر دم تک کبھی بھی میں یہ سبق بھول نہیں سکتا، اس لئے کہ یہ سبق ہے ہی ایسا اہم کہ کبھی بھی اس کا نقش دل مٹ سے نہیں سکتا۔

## ③۵ آلات علم کا احترام:

حضرت اقدس علم اور آلات علم یعنی کاغذ، قلم، کتاب اور پتائی وغیرہ کے ادب و احترام کی بہت تاکید فرماتے ہیں، اس بارے میں ایک بار اپنے کچھ حالات یوں ارشاد فرمائے:

① ایک بار میں ایک بہت بڑے جامعہ میں گیا ہوا تھا کچھ دوسرے مفتی حضرات بھی وہاں تشریف لائے ہوئے تھے کچھ تحقیقی کام ہو رہا تھا، اس دوران میں نے دیکھا کہ اس جامعہ کے صدر مفتی صاحب اور کچھ دوسرے مفتی حضرات بھی الماریوں میں سے کتابیں نکال نکال کر قالین پر ڈالتے جا رہے تھے، بجائے اس کے کہ کتابوں کو ادب کے ساتھ کسی پتائی وغیرہ پر رکھتے وہ پھینکنے کے انداز میں یونہی قالین پر ڈال رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت سخت تکلیف ہو رہی تھی لیکن اگر میں انہیں

اس وقت ٹوکتا تو ان کی بجلی ہوتی اس لئے میں اس وقت تو خاموش رہا بعد میں میں نے صدر مفتی صاحب کو انوار الرشید ہدیہ بھیجی، اس میں جہاں آلات علم کے ادب و احرام کا ذکر ہے وہاں کاغذ رکھ دیا اور انہیں یہ لکھا کہ میں نے علم اور آلات علم کے بارے میں اس کتاب میں یہ یہ باتیں لکھی ہیں اگر آپ کے علم میں کوئی اور بات بھی ہو تو وہ مجھے بتادیں تاکہ میں اس میں اضافہ کر دوں۔ ایسا کرنے سے مقصد انہیں تشیہ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ذہن میں ایسی اچھی تدبیر ڈال دی، چونکہ وہ بھی بہر حال مفتی تھے سمجھ گئے ہوں گے کہ تشیہ کی غرض سے ایسا کیا ہے۔

① میرے کمرے میں کپڑے لٹکانے کا بہت خوبصورت اور بہت عمدہ اسٹینڈ ہے جو صرف ایک یادگار کے طور پر رکھا ہوا ہے میں اس پر اپنا کوئی کپڑا بھی نہیں لٹکاتا چونکہ میز پر کچھ نہ کچھ کاغذات اور کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس لئے میں اسے آلات علم کی بے حرمتی سمجھتا ہوں کہ پینے کے کپڑے آلات علم سے اونچائی پر رکھے جائیں حالانکہ حضرت اقدس کا لباس انتہائی صاف ستھرا اور خوشبو سے معطر ہوتا ہے، آپ جس جگہ سے گزر جائیں دیر تک وہاں خوشبو منگی رہتی ہے اس کے باوجود یہ احتیاط۔ ذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء۔ جامع)

② دن میں جس وقت طلبہ میرے کمرے کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں اپنے کمرے میں ہی ہوتا ہوں، کمرے کی ایک جانب میں طلبہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو میں دوسری جانب میں کرسی پر بیٹھ کر مناجات مقبول پڑھتا ہوں پھر جب طلبہ صفائی کرتے ہوئے میرے قریب پہنچتے ہیں تو میں وہاں سے اٹھ کر مسہری کے قریب رکھے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھ جاتا ہوں، اس میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ صوفے کی وہ جانب جو مسہری کی پائنتی کی طرف ہے وہاں نہ بیٹھوں، اس لئے کہ یہ خلاف احرام ہے حالانکہ پائنتی کی جانب مجھے قریب پڑتی ہے اس کے باوجود دور جا کر بیٹھتا ہوں۔

۳۶ میرا کنگھا جمعہ کے دن ایک مولوی صاحب صاف کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہفتہ میں دو بار میں خود اسے گرم پانی سے دھوتا ہوں، کنگھا دھونے کے بعد چونکہ اسے خشک بھی کرنا ہوتا ہے اس لئے میں قریب رکھی ہوئی چارپائی کے سرہانے کی طرف کنگھا رکھتا ہوں پھر ہاتھ خشک کر کے کنگھا خشک کرتا ہوں۔ کنگھے کو پائنتی کی جانب اس لئے نہیں رکھتا کہ اسے سر اور ڈاڑھی میں استعمال کرتا ہوں۔ سر اور ڈاڑھی تو بہت محترم ہیں اس لئے یہ بات خلاف احترام ہے کہ اس کنگھے کو پائنتی پر رکھوں حالانکہ پائنتی قریب پڑتی ہے اس کے باوجود سرہانے کی جانب جاتا ہوں (یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ حضرت اقدس کے ہاں چارپائیاں اور ان پر چھٹی ہوئی چادر میں انتہائی صاف ستھری ہوتی ہیں۔ جامع)

### ۳۶) دم گزر:

میں ایک مدرسہ میں گیا، مجلس میں بہت سے علماء کا مجمع تھا، کچھ فاصلے پر سب سے الگ تھلگ ایک نوئی پھوٹی چارپائی پر ایک ناپینا قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے شاید وہ اس مدرسہ میں استاذ تھے وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد بلند آواز سے کہتے "دم گزر" اس سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی۔ اگر کسی کو اس کا استحضار ہو جائے کہ یہ دنیا دم گزر ہے تو اس کی ہر پریشانی کا علاج ہو جائے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی حیات طیبہ اور پرسکون زندگی نصیب ہو جائے۔

وہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت  
موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے  
جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا  
میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے

## ۴۷) اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں:

ایک دعاء ہے:

﴿اللہم انی اسألك حسن ظن بک﴾

"یا اللہ! میں تجھ سے خیرے ساتھ اچھا گمان مانگتا ہوں۔"

اس کے ساتھ ملا کر یہ دعاء بھی مانگیں:

﴿اللہم انجز وعدانا عند ظن عبدی بی﴾

"یا اللہ! تو اپنا یہ وعدہ پورا فرما کہ تو اپنے بندے سے اس کے

گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔"

دونوں کو ملا کر سوچا کریں پھر اللہ سے زیادہ سے زیادہ اچھا گمان پیدا کرنے کی کوشش کیا کریں۔

## ۴۸) نشتر کے بعد مرہم:

جب کسی کو کسی غلطی پر کچھ تنبیہ کریں تو اس کے بعد اس سے اعراض اور انقباض نہ رکھیں بلکہ اس کی تشجیح، واطیب خاطر اور دلجوئی کے لئے بقدر مصلحت اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اعراض و انقباض رکھنے سے اس کے دل میں کدورت اور نفرت پیدا ہوگی جس سے صلاح کی بجائے فساد پیدا ہوگا، وہ بددل ہو کر اور زیادہ بگڑتا جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اسکی غلطی پر شرعی سزا دی۔ حاضرین میں سے کسی نے اس سے کہا:

"اللہ نے تجھے رسوا کیا۔"

اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اس کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو۔“ (صحیح بخاری)

اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بد دل ہو جائے گا تو شیطان اس کے پیچھے لگ کر اسے اور زیادہ گمراہ کرے گا۔

### ۳۹) خدمات دینیہ کے بارے میں ایک دعاء کا معمول:

اللہ تعالیٰ محض اپنے کرم سے مجھ سے جو خدمات دینیہ لے رہے ہیں ان کے بارے میں اس دعاء کا معمول ہے:

”یا اللہ! جہد المقل کو قبول فرما، ایضاً۔ مزاجاً کو قبول فرما، جو ہے اور چور سے حفاظت فرما، امانت میں خیانت سے حفاظت فرما، میرے لئے میرے والدین کے لئے اکابر کے لئے اساتذہ و مشائخ کے لئے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تاقیامت صدقہ جاریہ بنا۔“

جامع عرض کرتا ہے:

حضرت اقدس کی اس دعاء میں درج ذیل قصوں اور مثالوں کی طرف اشارہ ہے جن کی وضاحت مختلف مواقع میں حضرت اقدس نے اس طرح ارشاد فرمائی:

### ① جہد المقل:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صدقہ جہد المقل ہے۔ ”جہد“ کے معنی ”کوشش“ اور ”مقل“ کے معنی ”مسکین نادار“، کوئی شخص نادار ہے محنت مشقت کر کے کماتا ہے پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں نکالتا ہے تو یہ صدقہ بہت افضل ہے۔ یا اللہ! جہد المقل کا صدقہ، ہم تو نادار ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اعمال کی نہ کیت نہ کیفیت، ہم جو کچھ ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں تو اسے افضل طریقہ

سے قبول فرمائے۔

## ۲) بضاعہ مزجاة:

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب تلخ خریدنے گئے تو جا کر کہا:

﴿ يَا بَيْتَ الْعَزِيزِ مَسَاوَاهِلُنَا الصَّرْوَجُنَا بِبِضَاعَةِ مَرْجَاتٍ

فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ﴾ (۱۳۱ - ۱۸۸)

"اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو (تخلی کی وجہ سے) بڑی

تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہم کچھ یہ نگی چیز لائے ہیں سو آپ

پورا تلخ دے دیجئے اور ہمیں خیرات سمجھ کر دے دیجئے۔"

مطلب یہ کہ ہم ناقص پونجی لے کر اناج خریدنے آئے ہیں مگر: فاوف لنا

الکیل۔ ہمیں کیل پورا پورا دیں اور مزید یہ کہ: و تصدق علينا۔ یعنی بڑھا کر

صدقہ بھی دیں۔ یا اللہ! بضاعہ مزجاة کا صدقہ ہماری ناقص پونجی پر تو پورے پورے

ثمرات عطاء فرمادے بلکہ اور بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ عطاء فرمادے، اپنی رحمت کی

بارش برسا دے، اللھم عاملنا بما انت اھلہ ولا تعاملنا بما نحن اھلہ۔

مگر اندر ما مکن باا نظر

اندر اکرام و سخائے خود مگر

"اہلی حالت کو نہ دیکھ اپنی شان کرم کو دیکھ۔"

## ۳) چوہے اور چور کی مثال:

حضرت رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نفس و شیطان کے شر سے بچنے اور ان کے

فریب سے ہوشیار رہنے کے لئے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں:

**پہلی مثال:** ایک بار ایک چور کسی کے گھر میں رات کے وقت گھس گیا، مالک کی آنکھ کھل گئی، اس نے چھتاق جلا کر دیکھنے کی کوشش کی، پہلے زمانے میں روشنی کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ چھتاق سے روئی میں آگ لگاتے تھے، چھتاق سے روئی میں آگ لگ جاتی تو روشنی ہو جاتی، مالک نے اس طرح روشنی پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن چور اس کے سرہانے بیٹھ گیا جو چھکاری چھتاق سے نکل کر روئی پر گرتی اسے فوراً ہاتھ سے مسل دیتا جس کی وجہ سے روئی میں آگ نہ لگی، مالک پر غم کا غلبہ تھا ہی، جب ایک دو بار کوشش سے روشنی نہ ہوئی تو چھوڑ کر دوبارہ سو گیا، چور اس ہوشیاری اور مکاری سے پورے گھر کا صفایا کر گیا۔ حضرت رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ان لوگوں کے لئے بیان فرمائی ہے جو یہ سمجھتے ہیں:

”ہمارے پاس دینی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، سارے گناہ بھی چھوٹ گئے، عبادات بھی بہت ہیں اور متعدد خدمات بھی بہت ہو رہی ہیں، جنت کا مکمل سامان ہو چکا ہے، کولسیاں بھری پڑی ہیں۔“

اپنے خیال میں بہت خوش ہو رہے ہیں لیکن خدا انخواستہ کوئی چور چھپ چھپ کر سارے مال کا صفایا کر گیا ہو اور آپ کو خبر بھی نہ ہو تو آخرت میں کیا بنے گا؟

## اعمال صالحہ کے چور:

وہ چور کون ہیں؟ نفس اور شیطان، جب بھی ان کی طرف سے دل میں یہ خیال آنے لگے کہ ہم بڑے متقی، پرہیزگار اور کامل ہیں تو ایک دم سارا کیا کرایا ضائع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی دیکھیری سے نظر ہٹ کر اپنے کمال پر نظر گئی تو بجائے جنت کے سامان کے جہنم کا سامان بن گیا، ساری عمر گناہ چھوڑنے کی مشقت بھی برداشت کی، عبادات میں وقت صرف کیا لیکن پھر بھی جنت نہ آئی، اس کی بجائے جہنم کی

دکھتی ہوئی آگ، کتنی بڑی عمروی کی بات ہے۔

**دوسری مثال:** ایک شخص نے بہت سا اناج اپنی کونھیوں میں بھر کر رکھ لیا کہ جب اناج کی قلت ہوگی تو نکال لیں گے، اپنے خیال میں بہت خوش ہو رہا ہے کہ میرے پاس تو کونھیاں بھری پڑی ہیں، لیکن جب اناج کی ضرورت پیش آئی کونھیوں کو کھولا تو ایک دانہ بھی نظر نہ آیا، سارا اناج چوہے نکال کر لے جا چکے تھے۔ ایسے موقع پر وہ شخص کتنا پریشان ہو گا۔

یہ مثال بھی حضرت رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے بیان فرمائی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جنت کے سامان کے اہار لگے ہوئے ہیں، کونھیاں بھری پڑی ہیں، نجی عبادات بھی بہت ہیں اور دوسروں تک دین پہنچانے کی خدمات بھی بہت، دین کی بہت زیادہ خدمت ہو رہی ہے اپنے طور پر بھی گناہ چھوٹے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے روک رہے ہیں، اپنے خیال میں بہت ہی خوش ہو رہے ہیں کہ ہم تو اب بالکل جنت کے مستحق بن گئے، ہمارے پاس تو خزانوں کے خزانے ہیں۔

لیکن جب خزانہ کھولنے کا وقت آیا، کب؟ کل قیامت کے روز خزانہ کھولنے کا وقت آئے گا، جب تمام اعمال پیش کئے جائیں گے، حساب و کتاب کا وقت سامنے آئے گا، اس روز اگر خدا انخواستہ اپنے خزانے میں سے ایک دانہ کے برابر بھی کچھ نہ نکلا، نفس و شیطان کے چوہوں نے تمام خزانوں کا صفایا کر دیا ہو تو کیا بنے گا؟ کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟

نفس و شیطان کے چوہے خزانوں پر کس طرح حملہ کرتے ہیں؟ دل میں جہاں یہ خیال آیا کہ سب کچھ میرا کمال ہے اور میرے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی دیکھیری سے نظر ہٹی اور اپنے کمال پر نظر لگی تو نفس و شیطان کے چوہوں نے تمام خزانوں کا صفایا کر دیا۔



مولانا شبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قصہ بتایا کہ انہوں نے ایک بار بہت سی شکر کسی جگہ جمع کر کے بند کر دی، بوقت ضرورت کھول کر دیکھا تو شکر بالکل غائب تلے میں سیاہ تہ نظر آئی، غور سے دیکھا تو چھوٹوں کی فوج جو شکر کے خزانے کو منتقل کر چکی تھی یا ہضم کر چکی تھی۔

## ۴۲ امانت میں خیانت :

جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا کمال سمجھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ نے کسی بھنگی پانڈار کو اپنے خزانے کا خازن بنا دیا ہو اور وہ اس خزانے کو اپنا سمجھنے لگے تو ایسے شخص کو بادشاہ موت کی سزا دے گا کہ اس نے تو اسے امین سمجھ کر خازن بنایا تھا اور اس بھنگی پر اتنا بڑا احسان کیا مگر یہ ایسا نالائق اور اتنا بڑا خائن نکلا کہ اسے اپنا سمجھ رہا ہے۔ اگر بادشاہ ایسے نالائق اور خائن کو موت کی سزا دے تو کم سے کم معطل تو کر ہی دے گا۔

اس مثال کو سامنے رکھ کر یوں سوچنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں خواہ وہ دنیوی نعمتیں ہوں یا دینی، پھر دینی نعمتوں میں سے علمی نعمتیں ہوں یا عملی، اپنی ذات کے لئے ہوں یا دوسروں تک علم و عمل پہنچانے کی نعمت ہو، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش ہو ان تمام نعمتوں کے بارے میں اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ میرا کمال ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ نعمتوں میں خیانت ہے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہیں، دنیا میں جس سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لے رہے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خازن ہے، خزانہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کی معرفت دوسروں میں تقسیم کر دیا ہے ہیں، بادشاہ کے خزانے میں جو کوئی خیانت کرے گا، اسے اپنا سمجھے گا تو یہ تو ممکن ہے کہ دنیا کے کسی بادشاہ کو پتا نہ چلے کہ اس کا خازن خزانہ پر اپنا دعویٰ کر رہا ہے یا چھپ چھپ کر چوری کر رہا ہے یا بادشاہ کو مروا ڈالے اور خزانوں کو غصب کر لے، مگر اللہ تعالیٰ کے علم

میں کوئی نقص نہیں، ان کی قدرت میں کوئی نقص نہیں، انہیں تو دلوں کے حالات کا بھی علم ہے، اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ سب میرا کمال ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت سے خارج نہیں اس کا وبال اس پر یہ پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے معطل کر دیں گے اور تمام نعمتوں سے اسے محروم کر دیں گے کہ اس نالائق کو تو بنایا تھا اپنے نژاد کا خازن اور یہ اسے اپنا کچھ رہا ہے کتنا بڑا ظالم ہے۔ پھر دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی۔

### ۳۰) اختلاف کی قسمیں اور شرائط:

اختلاف کی تین قسمیں ہیں:

① فریقین کا نقطہ نظر رضائے الہی ہو، ہر شخص یہ خیال کرے کہ جو میں کہتا ہوں اس میں دین کا فائدہ ہے اور فریق مخالف کا جو نظریہ ہے اس میں دین کا ضرر ہے۔ اس صورت میں جائزین پر یہ اختلاف فرض ہوتا ہے جس میں جائزین کو ثواب ملتا ہے، اگر یہ اختلاف کو چھوڑ دیں تو کئی کار ہوں گے۔

② جانب واحد کا مقصد رضائے الہی ہو اور دوسری جانب صرف اتباعِ ہوی کی خاطر اختلاف کر رہی ہو، مثلاً ایک شخص دوسرے کو نماز کی تلقین کرتا ہے اور منکرات سے روکتا ہے نہ رکنے کی صورت میں اس سے اختلاف کرتا ہے اور دوسرا شخص صرف اس لئے اس کا مخالف ہے کہ یہ اسے منکرات سے کیوں روکتا ہے تو پہلے شخص پر یہ اختلاف واجب ہے اور دوسرے پر حرام۔

③ دونوں خواہشات نفسانیہ کی بنیاد پر اختلاف کر رہے ہوں۔ یہ اختلاف جائزین کے لئے حرام ہے اور اس کا ترک واجب ہے۔

اختلاف میں ان شرائط کا لحاظ رکھنا جائے:

- ① اختلاف کے محمود ہونے کی شرط اول یہ ہے کہ اس کا منشاء رضائے الہی ہو۔
- ② دوسری شرط یہ ہے کہ اختلاف کرنے والے کا نظریہ بدعت کے خلاف نہ ہو۔

مثلاً کوئی شخص اونٹ کو بکری کہنے لگے اور یہ کہے کہ میری تحقیق یہی ہے، میں اپنی ریاست و اخلاص سے یہی سمجھتا ہوں، اس کے باوجود اس اختلاف کو محمود نہیں کہا جاسکتا بلکہ مذموم ہے۔

۱۲ جواز اختلاف کی تیسری شرط یہ ہے کہ اختلاف کرتے وقت الاحم فالاحم کا خیال رکھا جائے، کسی بڑے فتنے کو دبانے کے لئے اپنی اختلافات کو پھوڑ کر متحد ہونا ضروری ہے۔

۱۳ چوتھی شرط یہ ہے کہ اختلاف کسی کی ذات سے نہیں ہونا چاہئے صرف نظریے سے ہونا چاہئے۔

۱۴ اگر مخالف کے نظریے سے دین کا کوئی نقصان نہ ہو تو اس کا تحمل کرنا چاہئے تقریراً یا تحریراً رد کرنے سے احتراز کیا جائے۔

۱۵ اگر اس سے کوئی دینی نقصان ہو تو اس پر رد کرنے سے پہلے اس پر غور کیا جائے کہ اس اختلاف کی اشاعت سے جو نتائج پیدا ہوں گے کہیں ان میں دین کا زیادہ نقصان تو نہیں ہوگا، اگر زیادہ نقصان کا ظن غالب ہو تو بھی احوال البلیتین کے تحت سکوت اختیار کیا جائے۔

۱۶ اگر سکوت میں زیادہ دینی ضرر ہو تو اختلاف کی اشاعت حدود شرع کے اندر کی جائے۔

۱۷ جب تک اختلاف کا موقع موجود رہے اس کی اشاعت کو اسی وقت تک محدود رکھا جائے، موقع گزر جانے کے بعد اس کا کوئی تذکرہ نہ کیا جائے۔

## ۳۱ حج اور عمرہ کرنے والوں کو نصیحت:

حج اور عمرہ پر جانے سے پہلے نیت خالص کریں، اخلاص نیت کی اہمیت اور قبول عمل کا مدار و معیار ہونے کا بیان قرآن، حدیث، عقل اور دنیا بھر کے مسلمات میں سے ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿واخلصوا دينهم لله﴾ (۳ - ۱۳۶)

دوسری جگہ فرمایا:

﴿مخلصين له الدين حنفاء﴾ (۹۸ - ۱۵)

اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کے قبول ہونے نہ ہونے کا مدار نیت پر ہے۔ عقلی لحاظ سے بھی بالکل واضح ہے کوئی کسی سے کوئی تعلق رکھے اور اس کی کتنی ہی زیادہ خدمت کرے کتنے ہی بڑے بڑے احسان کرے لیکن نیت میں فساد ہو تو کوئی احسن سے احسن بھی اس کے اس عمل کو صحیح نہیں سمجھے گا بلکہ نفاق قرار دے گا۔ صحیح نیت میں یہ بھی داخل ہے کہ دین کا جو کام بھی کرے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے اگر اس کے طریقے کے مطابق نہیں کرتا تو وہ اخلاص نہیں اس لئے کہ اللہ کے لئے کرتا تو اس کے حکم کے مطابق کرتا۔ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے یہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ سوچئے! اللہ کے لئے اخلاص نیت کہاں رہا؟ نیت اللہ کے لئے خالص کریں اور اس میں ہر قسم کے فساد سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔

## فساد نیت کی قسمیں:

- ① نام و نمود، بہت سے لوگ حج یا عمرہ کے لئے نام و نمود کی نیت سے جاتے ہیں پھر اسی لئے اسے خوب اچھالتے ہیں۔
- ② کئی لوگ محض سیر و تفریح کی نیت سے جاتے ہیں۔
- ③ بہت سے لوگ اس نیت سے جاتے ہیں کہ وہاں کی برکت سے اور وہاں جا کر دعائیں مانگنے سے دنیاوی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اس بارے میں یہ بات خوب سمجھ لیں کہ ترک منکرات کی بجائے دوسرے طریقے اختیار کرنے سے اگر بظاہر مقصد پورا ہو بھی جائے تو درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے استدراج

ہوتا ہے۔

① بہت سے لوگ اس نیت اور عقیدہ سے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، گناہوں کو پھوڑنے کی ضرورت نہیں سمجھتے بلکہ وہاں جا کر اور زیادہ گناہ کرتے ہیں۔

② کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کر گناہوں کو پھوڑنے کی کوشش، استغفار اور صحیح مسلمان بننے کی دعا کے بغیر ہی خود بخود گناہ پھوٹ جائیں گے۔

③ حج و عمرہ کے افعال میں بھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمودہ طریقوں کی مخالفت کرتے ہیں یہ بھی فساد نیت میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص نیت کے خلاف ہے۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص نیت کا معیار یہ ہے کہ فساد نیت کی ان سب قسموں سے بچتے اور دوسروں کو بچانے کا اہتمام کریں، بس یہ کوشش رہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب نافرمانیوں سے توبہ کریں اس کے سچے بندے اور بچے مسلمان بن جائیں۔

## ③۲ بوقت طعام کراہت سلام و استحباب کلام کی وجہ:

کھانا کھانے والے کو سلام کہنا مکروہ ہے اور کھانا کھاتے وقت خاموش رہنا مکروہ ہے آپس میں باتیں کرنا مستحب ہے۔ ان دونوں مسئلوں میں فرق یہ ہے کہ سلام کا جواب جلدی دینے کا تقاضا ہوتا ہے اور شاید منہ میں لقمہ ہونے کی وجہ سے جواب دینا مشکل ہو اس لئے کھانا کھانے والے کو سلام کہنا مکروہ ہے۔ جلدی جواب دینے کا تقاضا ہونے کی تین وجوہ ہیں:

- ① سلام کا جواب دینا واجب ہے اس لئے ادا کے واجب میں تاخیر ناگوار ہوتی ہے۔
- ② سلام کہنے والا جواب کا منتظر ہوتا ہے بصورت تاخیر اس کی ناگواری کا اندیشہ ہے۔
- ③ سلام کہنا وجود محبت کی دلیل ہے اور مزید محبت بڑھانے کا نسخہ، جواب میں تاخیر

بظاہر عدم محبت کی دلیل اور محبت بڑھانے کے نسخے سے اعراض ہے۔

بوقت طعام باہم گفتگو کے استحباب کی وجوہ یہ ہیں:

① حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ تحریر فرمائی ہے کہ کھانا کھاتے وقت بالکل خاموش رہنا مجوس کا مذہب ہے ان سے مشابہت سے بچنے کے لئے کچھ گفتگو جاری رہنی چاہئے۔ لیکن کراہت کی یہ علت عام ممالک میں تو نہیں پائی جاتی عام ممالک میں مجوس کا علم نہیں کہ کہاں ہیں اور نہ ہی اس بارے میں ان کے مذہب کا علم ہے کہ ان کے ہاں کھانا کھاتے وقت خاموش رہنا واجب یا مستحب ہے۔

② کھانا کھاتے وقت اصحاب کا آپس میں تفریحی باتیں کرنے سے باہم تو ارد، تنہاب اور انہیساٹ میں ترقی ہوتی ہے جو دین و دنیا دونوں میں نافع ہے۔

③ کھانا کھاتے وقت محبت اور تفریح کی باتیں کرنے سے نظام ہضم پر خوشگوار اثر پڑتا ہے جو دین و دنیا دونوں میں نافع ہے، بالخصوص وہ علماء جو مباحث دینیہ میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں اور انہیں باہم تفریحی گفتگو کی فرصت ہی نہیں ملتی ان کے لئے کھانے کا وقت بہت اچھا موقع ہے، ان حضرات کے لئے باہم تفریحی باتوں سے دل و دماغ کو تازہ کرنا پھر اس انشراح اور قوت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اس لئے ان کے لئے بوقت طعام کچھ دل لگی اور تفریح کی باتیں کرنے کا استحباب اور زیادہ ثابت ہو جاتا ہے۔

### ③۳ بوقت طعام قوانین شریعت کی گفتگو مکروہ ہے:

کھانا کھاتے وقت تفریحی باتیں کرنا تو مستحب ہے لیکن قوانین شریعت جیسی غور طلب باتیں کرنا مکروہ ہے، اس کی دو وجوہ ہیں:

① قانون شریعت کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ پوری توجہ اور ہر دی جائے اور کھانے کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ پوری توجہ اس کی طرف رکھی جائے۔ حضرت حکیم الامت:

رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”کھانا ایسی رغبت سے کھاؤ کہ گویا آج ہی ملا ہے۔“

کھانا کھاتے وقت اگر مسائل شرمیہ کی باتیں کریں گے تو دونوں مقاصد میں تعارض ہو جائے گا دونوں میں سے کسی ایک کی بلکہ دونوں کی حق تلفی ہوگی۔  
 ❶ کھانا کھاتے وقت کسی چیز میں غور و فکر کرنے سے نظام ہضم پر برا اثر پڑتا ہے جس میں دین و دنیا دونوں کا نقصان ہے۔

### ❷ کھانے کو اپنی نشست کے برابر رکھنا چاہئے:

کھانا کھاتے وقت کھانے والا کھانے کو اپنی نشست کے برابر رکھے۔ نشست سے اوپر یا نیچے نہ ہو۔ بعض علاقوں میں یہ دستور ہو گیا ہے کہ کھانا کھانے والے گدوں پر بیٹھتے ہیں اور کھانا نیچے رکھتے ہیں اور بے دین لوگوں میں یہ طریقہ تو عام ہے کہ کھانے کو اپنی نشست سے اوپر رکھتے ہیں خود کرسی پر اور کھانا میز پر یا خود فرش پر اور کھانا پائی پر، یہ دونوں طریقے صحیح نہیں، کھانے کو اپنی نشست سے اوپر یا نیچے رکھنا غلط ہے۔ کھانا نیچے رکھنے میں تو یہ قباحت ہے کہ کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے آداب طعام کے خلاف ہے، حضرت حکیم الامتہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی کھانا چارپائی کی پانچ کی طرف رکھ کر کھایا ہو۔“

اور کھانے کو اپنی نشست سے اوپر رکھنے میں اس کا اظہار ہے کہ یہ کھانے کا محتاج نہیں کھانا اس کا محتاج ہے یہ خود کھانے کی طرف جھکنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے اسی لئے خود جھکنے کی بجائے کھانے کو اوپر رکھ کر کھانا مخبرین کا شعار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿اَكْلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ﴾ (صحیح، ابن عدی)

”میں غلام کی طرح کھاتا ہوں۔“

## ۳۵) دعاء میں رفع یدین کے مواقع:

عام قاعدہ تو یہ ہے کہ بوقت دعاء رفع یدین مستحب ہے لیکن یہ قاعدہ عمومی حالات کے لئے ہے جہاں مواضع مخصوصہ کے لئے الفاظ مخصوصہ وارد ہوئے ہوں وہاں رفع یدین مستحب نہیں، مواضع مخصوصہ کے لئے الفاظ مخصوصہ کی چند مثالیں یہ ہیں:

- ۱) فرض نمازوں کے بعد ارمیہ ماثورہ
- ۲) اذان کے بعد کی دعاء
- ۳) سونے سے پہلے اور بعد کی دعاء
- ۴) چاند دیکھنے کی دعاء
- ۵) پہلی کا چاند دیکھنے کی دعاء
- ۶) نماز کے شروع کی دعاء
- ۷) روزہ کے افطار کی دعاء
- ۸) احرام کے وقت کی دعاء
- ۹) احرام کے بعد مسلسل تلبیہ
- ۱۰) دخول حرم کی دعاء
- ۱۱) دخول مکہ کی دعاء
- ۱۲) حج اور عمرہ میں ہر موقع پر جہاں دعاء کے الفاظ ماثورہ ہیں
- ۱۳) صبح و شام کی دعائیں
- ۱۴) کھانے سے پہلے بسم اللہ جو کہ دعاء ہے پھر کھانے کے بعد کی دعاء
- ۱۵) پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور پینے کے بعد کی دعاء
- ۱۶) دودھ پینے سے پہلے بسم اللہ اور بعد کی دعاء



۱۳) ستر کی ابتداء اور انتہاء کی دعائیں

۱۴) گھر سے باہر نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کی دعائیں

۱۵) میت کو قبر میں رکھنے کی دعاء

۱۶) سواری پر سوار ہونے کی دعاء

اسی قاعدے میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی اپنے کسی مقصد کے لئے دعاء کی درخواست کرے تو یہ موقع بھی متعین ہے اور دعاء کے الفاظ اگرچہ پورے طور پر متعین نہیں لیکن اتنی تعین تو ہے ہی کہ مقصد کے مطابق الفاظ کہے جائیں گے اس لئے اس موقع پر بھی بوقت دعاء رفع یدین مستحب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسے موقع پر عموماً یہی دستور تھا کہ ہاتھ اٹھائے بغیر درخواست کرنے والے کے مقصد کے مطابق بلند آواز سے اسے سنا کر کچھ کلمات فرما دیتے تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں گھوڑے پر ثابت نہیں رہ سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا دست مبارک مار کر فرمایا:

﴿اللہم لتہ واجعلہ ہادیا مہدیا﴾

اس لئے اکابر کا بھی یہی دستور چلا آتا ہے کہ دعاء کی درخواست کرنے والے کے مقصد کے بارے میں ہاتھ اٹھائے بغیر بلند آواز سے دعائیہ کلمات کہہ دیتے ہیں۔

۳۶) بڑوں کے احوال و اقوال سے سبق حاصل کریں:

مکہ مکرمہ میں حضرت اقدس کے میزبان اور ان کے بچے آپ کی بہت خدمت کرتے تھے آپ ان سے فرمایا کرتے تھے:

﴿اکرموا الضیف المر تحل﴾

”کوچ کر جانے والے مہمان کا اکرام کرو۔“

پھر اس کی یوں تشریح فرماتے تھے کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، چند

روزہ مہمان ہوں، اس وقت کو غنیمت سمجھ کر ایسے مہمان کا خوب اکرام کریں، اس سے یہ مقصود نہیں کہ کھلانے پلانے اور خدمت میں اور زیادہ اکرام کریں وہ تو ضرورت سے بھی زیادہ ہو ہی رہا ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ میرے احوال و اقوال سے سبق حاصل کر کے کچھ بننے کی کوشش کریں۔

### ۳۷) مسافر خانے اور گھر کی حقیقت:

ایک بار حضرت اقدس عمرہ سے واپس تشریف لائے تو مکہ مکرمہ سے آپ کے میزبان نے بخیریت پہنچنے کی خبر معلوم کرنے کے لئے خط لکھا (ان کی محبت کی ایک عجیب حالت یہ تھی کہ حضرت اقدس کے وہاں سے روانہ ہونے سے اتنے دن پہلے ہی خط لکھ دیتے کہ حضرت اقدس کے کراچی پہنچنے سے پہلے ان کا خط پہنچ جاتا تھا) حضرت اقدس نے ان کو جواب میں لکھا کہ بھگوانہ تعالیٰ میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں بخیریت پہنچ کر غنیمت منینا ہوں۔ پھر ان کا خط آیا کہ ہم سب گھر والے بہت تعجب کرتے رہے کہ حضرت اقدس مسافر خانے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر کیوں تشریف نہیں لے گئے، کافی دیر غور کرنے کے بعد مسافر خانے اور گھر کی حقیقت سمجھ میں آئی۔

### ۳۸) بازار آخرت ہر وقت کھلا ہے:

کام کے بارے میں بفضل اللہ تعالیٰ میرا حال یہ ہے کہ کسی حال میں، کسی وقت میں، کسی دن میں کام بند نہیں ہوتا اور نہ کبھی ایسا ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ اتنا کام، اتنا کام، اتنا کام کہ مت پوچھیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا کے کاموں میں انسان کو اختیار نہیں کہ ناتھ نہ ہونے دے، مثلاً عید کے دنوں میں دکان چلانا بھی چاہیں تو گا کہ ہی نہیں آتا یا کارخانہ بنایا اگر مزدور نہیں آتے تو کام کیسے ہو یا کبھی یوں بھی

ہوتا ہے کہ لٹھ بردار لوگ جبراً دوکان بند کروا دیتے ہیں، دوکان کھولنا بھی چاہیں تو بھی بند کرنے پر مجبور ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ اس کے برعکس ہے، یہاں تو حال یہ ہے کہ عید کے دن بھی بہت کام کرتا ہوں عید تو دل کو پھلاتی ہے کہ جس محبوب کی طرف سے یہ خوشی ملی ہے اس کا شکر ادا کرو، میں دارالافتاء کے عملہ کو بھی عید کے دن اور رات میں کام میں لگائے رکھتا ہوں۔

مکتب عشق کا دنیا سے نرالا دستور

اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبتی یاد رہا

یہ تو مولیٰ کا کرم ہے کہ وہ معمولی کاموں پر بڑے بڑے انعامات اور تمغوں سے نوازتا ہے جب اس کے ساتھ محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی اور دل ہر وقت سرور سے بھرا رہتا ہے کہ میرا مالک مجھے ہر وقت اپنے کاموں میں مشغول رکھتا ہے کسی وقت بھی فارغ نہیں بیٹھنے دیتا، یہ میرے اللہ کا بھج پر بہت بڑا کرم ہے اس کی دیکھیری کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انب۔

یا اللہ! تو اپنے اس کرم عظیم کے صدقہ سے ہماری ان نوٹی پھوٹی خدمات کو قبول فرما۔

اگر کسی کے سامنے حسب خواہش کوئی دینی کام نہ ہو تو اللہ تعالیٰ دین کی جو خدمت بھی میسر فرمادیں اسی کو بہت بڑی نعمت سمجھ کر اس میں مشغول ہو جانا چاہئے، خدا نخواستہ کچھ بھی نہ ہو تو ذکر و نوافل میں مشغول ہو جائے، اس کا بازار بند نہیں حتیٰ کہ کسی وجہ سے ذکر و تلاوت نہیں کر سکتا، نوافل نہیں پڑھ سکتا تو دل کو مولیٰ کی طرف متوجہ رکھے محبت کا تعلق قائم ہو گیا۔

جو شخص بھی آخرت کا کاروبار اختیار کر لے گا دنیا کا کوئی واقعہ یا حادثہ اس کے کاروبار کو بند نہیں کر سکتا اسے کبھی خسارہ نہیں ہو گا بلکہ وہ تو ہر لمحہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا جائے گا، اس کے برعکس دنیا کی تو بڑی سے بڑی تہواروں میں بھی

خسارے ہوتے رہتے ہیں اور لوگ ہر وقت خسارے سے بچنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں لیکن افسوس کہ آخرت کے خسارے سے بچنے کی کوئی فکر نہیں، جب موت کے وقت اس اتنے بڑے خسارے کو دیکھیں گے تو سوائے حسرت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

### ③۹ دین سے غفلت کی تین صورتیں:

- ① سب سے زیادہ خطرناک اور دین کو دنیا کو تباہ کرنے والی وہ غفلت ہے کہ انسان کو کسی قسم کی بھی کوئی فکر ہی نہ ہو اس لئے جب اللہ کے قوانین کے مطابق عمل کرنے کی ہی فکر نہیں تو قوانین کا علم حاصل کرنے کی فکر کچھ نہ ہوگی۔
- ② قوانین کا علم تو حاصل کر لیتے ہیں مگر ان کے مطابق عمل نہیں کرتے اور اس میں اس قدر غفلت کا شکار ہیں کہ انہیں اللہ کے قوانین کے خلاف کوئی عمل کرتے ہوئے عین وقت پر بھی اس کا ہوش نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے قانون کے خلاف کر رہے ہیں دوسرے معنی میں یہ کہہ لیں کہ قوانین کا علم تو ہے لیکن وقت پر احتیاط نہیں رہتا۔ آج کل اکثر مولویوں کی حالت یہی ہے جیسے اپنے گھروں میں شریعت کے مطابق پردہ نہیں کرواتے، تصویر کی حرمت، ٹی وی کی لعنت، حرام خوردوں کی دعوتیں قبول کرنا وغیرہ بہت سے ایسے کبائر ہیں جن کا اس قسم کے مولویوں کو علم ہے مگر یہ ایسے کبائر میں مرتکب ہیں اور ایسی بے اعتنائی کہ گویا انہیں علم ہی نہیں ایسا کھتل دھول ہوتا ہے کہ علم اور جہل برابر۔ اس مرض کی بنیادی خرابی یہ معلوم ہوتی ہے کہ علم حاصل کرتے وقت ہی عمل کی نیت نہیں ہوتی تحصیل علم سے رضائے الہی مقصود نہیں کچھ دوسرے مقاصد سامنے ہوتے ہیں۔

③ اللہ کے قوانین کا علم بھی حاصل کر لیتے ہیں اور وقت پر ان کا احتیاط بھی ہو جاتا ہے اس کے باوجود کبھی کبھار نفس و شیطان کے بہکانے اور عوارض بشریہ کی وجہ سے

کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن عین اثناء کے وقت بھی انہیں اس گناہ کے صدور کا استحضار ہوتا ہے مگر وہ مطلوب ہو کر گناہ میں مشغول ہو جاتے ہیں اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کا دل لرزاں و ترساں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے گناہ کی لذت کو کرکرا کر دیتا ہے۔ یہ حالت لطافت کی تینوں حالتوں میں سے اچھون ہے اس لئے کہ عین وقت پر بھی اس کے قلب پر عداوت سوار ہوتی ہے بلکہ عداوت کے ساتھ قلب سے استغفار بھی کرتا رہتا ہے اس کی ہدایت کی توقع غالب ہوتی ہے۔

### ⑤ ضعیف اور مریض کی حوصلہ افزائی:

عام طور پر یہ دستور ہو گیا ہے کہ کسی مریض یا مسمر کو زیادہ دنوں کے بعد دیکھنے والے اسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ کہنا صحیح نہیں اس سے سنے والے پر نفسیاتی اثر پڑتا ہے جس سے اس کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اگر مریض خود اپنی کمزوری یا کوئی تکلیف ظاہر کرے یا کوئی دوسرا مجلس میں مریض کے سامنے ایسی بات کہے تو اس صورت میں بھی مریض سے تسلی کے کلمات کہنے چاہئیں، مثلاً:

① ماشاء اللہ! آپ کی صحت بہتر معلوم ہوتی ہے۔ اگر واقعہ بہتر نہ بھی ہو تو اس میں یہ تاویل کی جاسکتی ہے کہ بہتر اور خراب کے درمیان کئی درجات ہیں، انسان جس حالت میں بھی ہو اس سے بھی زیادہ خراب حالات ہوتے ہیں، اس نیت سے ہر حالت کو اس سے کتر حالت کی نسبت بہتر کہا جاسکتا ہے۔

② اگر مریض پر اپنی تکلیف کا کچھ زیادہ ہی اثر ہو اور بہتر جانے کی صورت میں یہ خطرہ ہو کہ وہ اسے صرف ظاہری تسلی سمجھے گا تو ایسی صورت میں یوں کہا جائے کہ دنیا میں تکلیفیں تو بڑی سے بڑی ہیں، بیماریاں بڑی سے بڑی ہیں ان کی نسبت یہ حالت بہتر ہے اس لئے یہ مقام شکر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آئے تو اس پر تین شکر

- ① الحمد للہ! یہ مصیبت دنیوی ہے دینی نہیں، دین کو نقصان نہیں پہنچا۔  
 ② الحمد للہ! پھولی مصیبت ہے بڑی مصیبت نہیں۔  
 ③ الحمد للہ! اللہ تعالیٰ نے مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عطاء فرمائی ہے۔  
 ④ تکلیف پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے اجر کے وعدے ہیں۔

⑤ یہاں کی تکلیفیں عارضی ہیں یہ دنیا تو رہ گزر ہے یہاں کی تکلیف کی بجائے آخرت کے اجر اور راحت پر نظر کرنی چاہئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت آپ کے گھر والوں نے کہا: واحرباہ۔ "ہائے ہم لٹ گئے۔" آپ نے یہ سن کر آنکھیں کھولیں اور نعرۂ مستانہ لگایا: واطرباہ غدا القی محمدنا وصحبد۔ "ارے واہ! کتنی بڑی مسرت، کتنی بڑی لذت، یہ لذت کس چیز کی ہے؟ ابھی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملا، ابھی اپنے دوستوں سے ملا۔" دوستوں کی ملاقات کے استحضار نے ایسی سخت تکلیف کو خوشی سے بدل دیا۔ جنہیں جنت اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا استحضار رہتا ہے وہ دنیا کی تکلیفوں پر پریشان نہیں ہوتے۔

ہدم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش و خرم  
 رہتا ہے تسلی کوئی بیٹھا مرے دل میں  
 روتے ہوئے اک بار ہی ہنستا رہتا ہوں مجذوب  
 آجاتا ہے وہ شوخ جو ہنستا مرے دل میں

## ⑤ حضرت استاذ طوطا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ:

ایک حدیث ہے:

﴿لولا شباب خشع و بیہانم رتع و شیوخ رکع و اطفال رضع لصب علیکم العذاب صبا﴾ (کشف الخفاء)

”مگر خشوع کرنے والے جوان اور گھاس چرنے والے چوپائے اور جھکی ہوئی کروالے بوڑھے اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے تو تمہیں عذاب سے تباہ کر دیا جاتا۔“

یہ روایت ضعیف ہے لیکن اصول شرعیہ و عقلیہ کے مطابق ہے۔ ایک بار مجھے خیال آیا کہ یہ چاروں اقسام جن کا ذکر اس حدیث میں ہے ان میں سے دارالافتاء میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں مگر کوئی حیوان نہیں، ہم سوچنے لگے کہ یہ چوتھی چیز بھی یہاں ہونی چاہئے، اس بارے میں کچھ احباب سے مشورہ کیا کہ کون سا حیوان رکھا جائے بالآخر یہ طے پایا کہ طوطے کا پالنا آسان ہے، چنانچہ طوطا منگوا لیا گیا، اسے جب یہاں پتھرے میں رکھتے تھے تو رحم آتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ کہیں باہر سے وہ طوطوں کی آواز سنتا تو بہت پھڑپھڑاتا ایسا لگتا تھا کہ اسے اپنا وطن یاد آجاتا ہے۔

دل قفس میں لگ چلا تھا پھر پریشاں کر دیا  
ہمصغیر و تم نے کیوں ذکر گلستاں کر دیا

وہ بہت پریشان ہوتا، بہت پھڑپھڑاتا، بہت بے چین ہو جاتا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس پر رحم کے ساتھ ساتھ یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر شوق وطن اتنا کیوں نہیں جتنا اس میں ہے۔ پھر پتھرے سے آزاد کرنے کی غرض سے اس کے پر کاٹ کر چھوڑ دیا، اس کے باوجود وہ پرواز کرتا تو دارالافتاء سے باہر سڑک پر جا کر گرتا پھر کوئی اسے پکڑ کر لاتا، دو تین بار ایسا ہونے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اس پر شوق وطن اتنا غالب ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی ہمارے پاس رہنے کو تیار نہیں تو ہم نے اسے آزاد کر دیا۔ یہ طوطا دوسرا سبق یہ دے گیا کہ طوطے کی حب وطن پر دنیا کی کوئی چیز غالب نہیں آسکتی، اسے جتنا چاہیں پیار کریں مٹھو مٹھو کہیں، محبت سے پچکھاریں، اپنے ہاتھوں پر اٹھائیں کندھوں پر رکھیں، بہتر سے بہتر

پھل اور مالیدہ کھلائیں کچھ بھی کر لیں اسے اڑنے کا ذرا سا موقع ملے گا تو آپ کی ساری محبت، سارے احسانات وہ ایسے بھلاوے گا کہ جیسے کبھی بھی آپ سے تعارف ہی نہ ہوا ہو اسی لئے طوطا چشم کی اصطلاح بہت مشہور ہے جس کا مطلب ہے ”بے وفا، مطلب پرست“ میں کبھی کبھی یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ مجھ سے تعلق رکھنے والے سب یہ سمجھ لیں کہ میں طوطا چشم اور مطلب پرست ہوں۔ مطلب یہ کہ آخرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے غیر کا کوئی تعلق مجھ پر غالب نہیں آسکتا اس لئے خوب سمجھ لو میں مطلب پرست ہوں، میرا مطلب ہے میرا ”اللہ“۔

طوطا جب کسی کی قید میں ہوتا ہے تو آفات سے محفوظ ہوتا ہے کہ کوئی شاہین یا بلی وغیرہ نہ کھا جائے، کھانا بھی میٹھے میٹھے ملتا رہتا ہے اس کے باوجود وہ اڑنے کی فکر میں رہتا ہے، اس سے مسلمان کو یہ سبق حاصل کرنا چاہئے کہ اللہ کی محبت میں، وطن آخرت کے شوق میں دنیا بھر کی محبتوں اور تعلقات کو قربان کر دے، کوئی طمع اور کوئی خوف اللہ کی محبت کے مقابل نہ آنے پائے۔ وہ ایک چھوٹا سا پرندہ کیسے کیسے سبق دے گیا، اسی لئے اس وقت سے میں نے اس طوطے کو کہنا شروع کر دیا:

”حضرت اساذ طوطا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ۔“

## (۵۱) غلبہ فساد کا اثر:

طبائع میں غلبہ فساد کی وجہ سے یہ دستور عام دیکھنے میں آرہا ہے کہ اگر کوئی کسی کی اچھی بات سنتا ہے تو کچھ تاویل کر کے اس کی خوبی کو عیب کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر کوئی رائی سنتا ہے تو اس کی تائید کرتا ہے بلکہ مزید تقائض نکالتا ہے جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ کسی کی خوبی سننے میں آئے تو اس کی تحسین اور اس پر انکھار مسرت کیا جائے اور اگر کوئی خامی سننے میں آئے تو کسی تاویل کے ذریعہ اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ عمل کرنے سے اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچانے کے علاوہ مزید دو فائدے ہوتے ہیں:



① غیبت سننے کے عذاب سے حفاظت ہو گئی۔

② آئندہ یہ غیبت کرنے والا آپ کے سامنے اس کی غیبت کرنے اور اس کے عیوب بیان کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ سمجھ جائے گا کہ اس پر اس کا زہر نہیں پڑھ سکتا۔ انگلیاں وہیں رہنے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں دینے کی امید ہو، جب ایک بار انگلی دبا کر تجربہ کر لے گا کہ اس میں انگلی نہیں دب رہی تو مایوس ہو کر چھوڑ دے گا بلکہ اسے جب یہ معلوم ہو گا کہ وہ جس کی غیبت کر رہا ہے آپ اس کے طرفدار ہیں تو وہ آئندہ آپ کے سامنے اس کی غیبت کرنے میں اپنی سبکی سمجھے گا اور آپ کی نظروں سے گرنے سے احتراز کرے گا۔ حضرت مفتی محمد حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کسی نے ایک مدرسہ کے مہتمم صاحب کی کوئی غالی بتائی، آپ نے جواب میں فرمایا:

"وہ اپنے معاملات کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔"

حضرت مولانا حماد اللہ ہالچوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بھی ایک بار اسی قسم کی شکایت کی گئی۔ آپ نے بھی وہی جواب دیا:

"وہ اپنے معاملات کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔"

## ⑤۳ شیخ کے کمالات و احسانات کا مراقبہ:

شیخ سے زیادہ قرب اور ان کے عوارض بشریہ دیکھنے سے عقیدت و محبت میں کمی واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو بالظنی ترقی سے مانع بلکہ باعث اذیاب ہے، اس سے بچنے کے لئے شیخ کے کمالات و احسانات کو زیادہ سے زیادہ سوچنا چاہئے بلکہ روزانہ سوچنے کا معمول بنائیں۔

ایاز روزانہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے بہت دیر بیٹھے رہتے تھے، دوسرے وزراء کو شبہ ہوا کہ یہ شاہی خزانے سے کچھ چرا کر لاتے ہیں اور اپنے

کمرے میں دفن کرتے ہیں، انہوں نے بادشاہ سے شکایت کر دی، بادشاہ نے چھاپے مارنے کا حکم دیا و وزراء حسد میں جلے جا رہے تھے اس لئے بہت خوش ہو رہے تھے کہ آج ایاز پکڑا جائے گا۔ بادشاہ کے حکم سے کرا کھلوا یا گیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار میں کھوٹی پر ایک پرانی گدڑی تنگی ہوئی ہے۔ ایاز اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہوں نے پوچھنے پر بتایا کہ میں روزانہ اس گدڑی کی طرف دیکھ کر اپنے نفس سے کہا کرتا ہوں کہ ایاز اتھری حقیقت یہ ہے اور آج تو جس تنعم میں ہے وہ محض بادشاہ کا کرم ہے کہیں اپنی حقیقت کو بھول مت جانا۔ وزراء یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے۔

اسی طرح شیخ کے بارے میں یہ سوچتے رہنا چاہئے کہ ہمیں جو بھی دینی ترقی ہوئی اور نفس کی اصلاح ہوئی وہ شیخ کے احسانات اور ان کی نظر کرم کا صدقہ ہے ورنہ ہماری کیا حقیقت۔

کہاں سے مجھ کو پہنچایا کہاں چہر مغاں تو نے  
مرا میخانہ اب لاہوت ہے روح الامیں ساقی

## ۵۴) امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی عوام سے بیزارگی:

امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ عوام سے اتنے بیزار تھے کہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کے عوام مرد میرے غلام ہوتے اور عورتیں میری باندیاں ہوتیں تو میں سب کو آزاد کر دیتا اور ان کی وراثت بھی نہ لیتا۔ وراثت کے بارے میں دو مسئلے سمجھ لیں:

- ۱ کسی نے کوئی غلام یا باندی آزاد کی اور وہ مر گئی تو اگر اس کا کوئی نسبی رشتہ دار نہ ہو تو اس کی وراثت آزاد کرنے والے کو ملے گی۔

- ۲ کوئی وراثت لینے سے انکار کرے، مخاف کرے، دستبردار ہو جائے تو بھی اسے وراثت بہر حال ملے گی انکار کرنے سے حق وراثت ساقط نہیں ہوتا وہ تو بہر صورت

ملتی ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فیصلہ سنایا اس سے مقصد عوام سے زیادہ سے زیادہ بیزارگی ظاہر کرنا ہے یعنی اگر وراثت ملنے کی کوئی صورت میسر ہوتی اور پھر اسے پھوڑ دیتے کی کوئی صورت ممکن ہوتی تو پھوڑ دیتے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ردالمحتار میں باب الاعتکاف شروع ہونے سے پہلے متصل ہے۔

یہ فیصلہ ان عوام کے بارے میں ہے جو علماء سے تعلق نہیں رکھتے، جو عوام علماء سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مجالس میں حاضری دیتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کی کتابیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطاء فرما دیتے ہیں۔

### (۵۵) ابتلاء و امتحان کی صورتیں:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ابتلاء و امتحان کی دو صورتیں ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا:

﴿وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۹۸﴾﴾

(۱۹۸ - ۷)

① دنیوی نعمتوں کی فراوانی۔

② دنیا کی زیادہ نعمتوں کا فقدان ان سے محرومی۔

ان میں سے قسم اول کا امتحان زیادہ سخت ہے اس لئے ان حالات میں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، جس کی دو وجہیں ہیں، ایک ظاہری دوسری باطنی:

① ظاہری وجہ یہ کہ دنیوی نعمتوں کی فراوانی کی صورت میں اسباب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہوں کے ارتکاب میں سہولت ہوتی ہے۔

② باطنی وجہ، تنعم و تعیش کی مستی۔

اس کے برعکس دنیوی نعمتوں سے محرومی کی صورت میں گناہوں اور نافرمانیوں سے محفوظ رہنے کے دو سبب موجود ہیں، ایک ظاہری دوسرا باطنی:

① ظاہری یہ کہ اسباب زیادہ مہیا نہیں۔

② باطنی قلب و جسم دونوں کی شکستگی۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیوی نعمتوں سے محرومی کی طلب اور دعاء کی جائے، دعاء یہی رہے کہ اللہ تعالیٰ دنیوی نعمتیں عطاء فرمائیں پھر اس کے ساتھ قلباً قولاً عملاً شکر نعمت کی توفیق بھی عطاء فرمائیں، نعمتوں کو منعم کے ساتھ محبت بڑھانے اور آئینہ جمال یار بنانے کا ذریعہ بنایا جائے۔

ما در پیالہ عکس رخ یار دیہ ایم

اے بے خیر لذت شرب دوام ما

”ہم پیالے میں رخ یار کا عکس دیکھ رہے ہیں، تجھے ہمارے

شرب دوام کی لذت کی کیا خبر۔“

## ⑤۶ ذکر اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے:

ذکر کے لئے وقت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی انسان کتنا ہی مشغول ہو اس کے باوجود ذکر شروع کر دے تو وہ اپنی جگہ خود ہی نکال لیتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کھانا خوب تن کر کھالیں اس کے بعد کوئی مرغوب چیز سامنے آجائے تو آپ وہ بھی بہت رغبت سے کھالیں گے اس چیز کی جگہ از خود بن جائے گی۔ ذکر اللہ قلب کی غذا ہے جو غذا قلب سے بدرجہا زیادہ لذت ہے، کوئی تجربہ تو کرے۔

ذوق این بادہ نہ دانی بخدا تا نہ چشی

”تو چکھے بغیر شراب محبت کی لذت کو نہیں سمجھ سکتا۔“

لطف سے تجھ سے کیا کہوں زاہد

ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں

ذکر اللہ کا یہ کرشمہ ہے ۔

زاہدوں کو بھی شریک بزم رعداں کر دیا  
سینکڑوں کو دختر رز نے مسلمان کر دیا

آپ چند روز ذکر اللہ کی پابندی کے بعد اپنے بارے میں خود کہنے لگیں گے  
یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا

مگر کسی شیخِ کامل سے اصلاحی تعلق رکھنا ضروری ہے ورنہ نفع کی بجائے نقصان  
ہوگا، خود کو مکمل طور پر شیخِ کامل کے سپرد کئے بغیر نفس و شیطان کے مکالمے سے بچنا  
ممکن نہیں ۔

نفس ستوان کشت الاغل ہیر  
دامن این نفس کش را سخت گیر  
”ہیر کے سائے کے سوا نفس کو قتل نہیں کیا جاسکتا، اس  
نفس کش کا دامن مضبوط پکڑ۔“

نفس کا مار سخت جاں دیکھ ابھی مرا نہیں  
عافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں

—:—

بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو مگر مارا  
چنگ و اثر دھا و شیر نر مارا تو کیا مارا  
اس سلسلے میں وعظ ”بیت کی حقیقت“ غور سے پڑھیں۔

⑤ کتاب کے بارے میں اندازہ لگانے کا طریقہ:

کسی نئی کتاب کا اندازہ لگانے کے لئے یہ تدبیر ہے:

① اس کا مقدمہ دیکھیں بالخصوص اگر مصنف کے حالات مقدمہ میں ہوں تو انہیں غور سے دیکھیں۔

② خاتمہ دیکھیں۔

③ فہرست دیکھیں، اس میں جو عنوان اہم نظر آئیں انہیں دیکھیں۔

یہ تین کام کرنے سے کتاب کا اندازہ ہو جائے گا۔

## ⑤۸ اللہ سے مانگنے کا طریقہ :

انسان کو اپنی ہر حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور سوال کرنا چاہئے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں ذرا ان کی حالت پر غور کریں کہ کس طرح عاجزی سے اور کیسی کیسی شکلیں بنا کر لوگوں کے سامنے گڑگڑا گڑگڑا کر مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنے والوں کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہئے۔

ایک بار میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت مردانہ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا اس لئے آپ خود اٹھ کر اندر گئے اور میرے لئے شربت کا گلاس لے آئے، آپ کی گود میں ایک پھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی تھی شاید پوتی یا نواسی ہوگی: وہ شربت کا گلاس دیکھ کر کہنے لگی: ”مجھے دو“۔ شربت کا ایک ہی گلاس تھا میں نے اسے پینا شروع کر دیا، وہ بچی بار بار شربت مانگتی رہی وہ اسے خاموش کرانے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ خاموش نہ ہوئی بلکہ جیسے اسے خاموش کرا۔ وہ اور زیادہ پچلتی اور چیخ چیخ کر کہتی: ”مجھے دو، مجھے دو“ میں نے جلدی جلدی گلاس ختم کرنے کی کوشش کی اس خیال سے کہ اگر میں نے اپنا گلاس بچی کو دے دیا تو ڈاکٹر صاحب پھر خود اٹھ کر اندر جائیں گے اور میرے لئے دوسرا گلاس لانے کی زحمت فرمائیں گے جبکہ آپ کے اتنے بلند مقام اور عمر کے لحاظ سے شدید جسمانی ضعف کے پیش نظر پہلی ہی بار آپ کے زحمت فرمانے پر میں بہت نارم تھا، شرم میں ڈوب ڈوب جا رہا تھا کہ اس بچی نے ”مجھے دو، مجھے دو“ کی ایسی رٹ لگائی کہ مجھے چند

گھونٹ پینے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا شربت کا گلاس پچی کو دینا پڑا تو کہیں جا کر وہ چین سے بیٹھی۔ اس قہے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں اپنی طلب کا یوں مظاہرہ کرے ۔

ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا  
حکومت اپنی اپنی ہے کہیں تیری کہیں میری

### ⑤۹ کسی کام کی فرصت نہ ملنا بے اعتنائی کی دلیل:

آخرت کے معاملے میں لوگ عموماً غفلت اختیار کرتے ہیں، مثلاً عبادات کے اداء کرنے میں یا بعض دیگر امور جو کہ آخرت بنانے میں معین ہوں ان میں غفلت برتتے ہیں اور یہاں یہ بناتے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ملتی۔ ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ کھانا کھانے کی فرصت، استنجا خانہ جانے کی فرصت، خود بیمار ہو جائیں یا بیوی بچے بیمار ہو جائیں تو دیکھ بھال کی فرصت اور دوسرے دنیوی امور انجام دینے کی فرصت کیسے مل جاتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی قلب میں اہمیت نہیں اس کے لئے فرصت نہیں اور جن چیزوں کی قلب میں اہمیت ہے ان کے لئے ہر حال میں وقت مل جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس چیز کے بارے میں یہ سوچ لیا جائے کہ فرصت ملے گی تو کریں گے اس کے لئے کبھی بھی فرصت نہیں ملتی۔

### ⑥۰ کمر سیدھی کرنے کا نسخہ:

حضرت اقدس جب مغربی ممالک تشریف لے گئے تو وہاں ہر جگہ یہ عجیب منظر دیکھا کہ جب بھی کہیں بیان فرماتے تو لوگ مسجد میں دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے، انگلینڈ، امریکا، کینیڈا اور جزیرہ باربڈوز وغیرہ میں ہر جگہ لوگوں کا یہی طریقہ

تھا۔ حضرت اقدس ان لوگوں کو دیکھ کر بیان شروع کرنے بلکہ خطبہ پڑھنے سے بھی پہلے ہی اپنے مخصوص دلکش اور دلآویز انداز میں مسکراتے ہوئے انہیں یوں تھیرے فرماتے:

”آپ لوگوں کی کمرس ٹوٹی ہوئی ہیں جو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے آئیے! آپ کی ٹوٹی ہوئی کمرس سیدھی کرنے کا ایک نسخہ بتاتا ہوں وہ یہ کہ جہاد میں کم از کم ایک چلہ لگا کر آئیں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی کمرس بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔“

حضرت اقدس ایسے مواقع پر ایسے دلکش انداز سے میٹھی تھیرے فرماتے ہیں کہ سننے والوں کو قطعاً کوئی ناگواری محسوس نہیں ہوتی بلکہ خوش ہوتے ہیں، چنانچہ نور تنو میں ایک موقع پر سامعین کی مسرت کا مظاہرہ یوں ہوا کہ ایک صاحب اپنے پاس والے کا بازو پکڑ کر ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ یہ ڈاکٹر ہے اس کی بھی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب بھی ہنسنے لگے۔

حضرت اقدس کبھی اپنے خدام میں سے کسی کو ایسی دلکش تھیرے کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”ڈانٹ بھی پلاتا ہوں تو میٹھی میرے بیٹے۔“

پھر اس سے پوچھتے ہیں:

”میٹھی ہے نا؟“

وہ بہت خوش ہو کر ہنستا ہوا کہتا ہے:

”جی ہاں۔“



## ۶۱) رجاء و غرور:

حدیث میں ہے کہ جنتی کی عمر تیس سال ہوگی۔ مجھے اتنی سال کی عمر میں یوں معلوم ہو رہا ہے کہ تیس سال کا ہوں، جہاد کے ایسے ایسے جوش اٹھتے ہیں کہ بیان نہیں کر سکتا، یہ حال ہو رہا ہے۔

جو آئے نہ جائے وہ جوانی دیکھی  
جو جا کے نہ آئے وہ بڑھاپا دیکھا  
مشہور تو یوں ہے۔

جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی  
جو آئے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا  
مگر میں یوں پڑھتا ہوں۔

جو آئے نہ جائے وہ جوانی دیکھی  
جو جا کے نہ آئے وہ بڑھاپا دیکھا

کسی مجاہد کو دیکھنے بلکہ جہاد کے تصور سے ہی ایسا لگتا ہے کہ سبوں خون بڑھ گیا۔

مت پوچھ کہ جوش اٹھتے ہیں کیا کیا مرے دل میں  
دن رات بس اک شتر ہے بہا مرے دل میں

جنت میں ملنے والی جوانی کی امید اور اس کے تصور نے مجھے جوان بنا رکھا ہے۔

اگرچہ دور اقدام بدین امید خرندم  
کہ شاہ دست من باروگر جانان من گیزد

بس اس امید کی مستی ہے۔ عمل کی کوشش اور دعاء کے ساتھ اس قسم کے خیالات و جذبات رکھنے کو "رجاء" کہتے ہیں جو محمود ہے۔ عمل کی کوشش اور دعاء کے بغیر اس قسم کے خیالات کو غرور کہتے ہیں جو مذموم ہے۔ عمل کی کوشش اور دعاء بھی انہی کی عطاء ہے۔

یہ جو کچھ بھی ہے سب ترا ہی کرم ہے

لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

### ۶۲) مغربی جزیرہ میں مرکز الجہاد:

میں نے سن ۱۳۱۵ ہجری میں مغربی ممالک کا سفر کیا جس کا مقصد "اللہ کے پانچوں کو مسلمان بنانا" تھا۔ اس سفر میں ویسٹ انڈیز کے جزیرہ باربڈوز جاتے ہوئے رفقہ نے بتایا کہ جہاز میں رکھے ایک رسالہ میں لکھا ہوا تھا کہ ایک جزیرہ فروخت ہو رہا ہے اس کا پتا وغیرہ بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کا پتا وغیرہ بتاؤ ہم وہ جزیرہ خریدیں گے۔ ساتھی کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم اسے خریدیں گے؟ پتا وغیرہ تو ہم نے لکھا ہی نہیں۔ میں نے انہیں اس غفلت پر تسمیہ کی اور دعاء کی کہ یا اللہ! واپسی میں وہی رسالہ مل جائے، اس کے علاوہ ساتھیوں کو تاکید بھی کر دی کہ واپسی میں اس رسالہ کا خیال رکھیں۔ میرا خیال تھا کہ اس جزیرہ پر ہماری حکومت ہوگی تو ہم وہاں سے پوری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کرنے کا کام شروع کریں گے، اسے "مرکز الجہاد" بنائیں گے۔ واپسی میں وہی رسالہ جہاز میں مل گیا مگر اس میں لکھا ہوا تھا کہ جزیرہ فروخت کر رہے ہیں مگر اس کی حکومت نہیں دیں گے۔ میں نے کہا جب حکومت نہیں دیں گے تو ایسا جزیرہ خریدنے سے کیا فائدہ؟ بہر حال اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نیا ہی کھسی جاتی ہیں، عزائم بلند رکھا کریں، نیت بلند رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔

## ۶۳) قلب پر صبغۃ اللہ کی پالش:

حضرت اقدس اپنے جوتے پر خود پالش کر رہے تھے، متعلقین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں پالش کر دیتا ہوں۔ حضرت نے انکار فرمایا پھر ان صاحب نے بتایا کہ بازاروں میں پھونے پھونے بچے پالش لئے پھرتے ہیں اور جو بھی ملتا ہے اس کے جوتوں پر زبردستی پالش کر دیتے ہیں، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بچے ہیں مردت سے کر دالیتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اقدس نے فرمایا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ سب مسلمانوں کو زبردستی پالش کر دوں، خوشی سے تو کروا دیتے ہیں، مگر میرے قلب میں اس قدر شدت سے جذبہ الصفا ہے کہ جو بھی ملے اسے زبردستی پکڑ کر پالش کر دوں۔ پالش کے تصور سے دوسروں کی اصلاح کی فکر سے پہلے اپنے قلب کی پالش کی فکر پیدا ہوتی ہے، اس وقت بھی ذکر اللہ سے اپنے قلب پر صبغۃ اللہ کی پالش کر رہا ہوں۔

جامع عرض کرتا ہے کہ حضرت اقدس کے انکار کی دو وجوہ ہیں:

① حضرت اقدس کو اپنے چند مخصوص خدام کے سوا کسی سے بھی کوئی کام لینا گوارا نہیں۔

② عوام میں حضرت اقدس کی طبیعت کے موافق کام کرنے کا سلیقہ نہیں۔

## ۶۴) مجاہد کے جسم میں دھاتوں کا تناسب:

حضرت اقدس کو جب آواز بیٹھنے کا عارضہ ہوا تو ایک مشہور ڈاکٹر اجازت لے کر آگے انہوں نے یہ تقریر شروع کر دی کہ انسان کے جسم میں مختلف دھاتیں ہیں، مثلاً سونا، چاندی، تانبا، لوہا وغیرہ صحت برقرار رکھنے کے لئے ان میں تناسب ضروری ہے، اگر یہ تناسب بگڑ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تقریر ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ درمیان ہی میں حضرت اقدس نے بڑے جوش سے

فرمایا:

”مجاہد کے جسم میں سب دھاتوں کا تناسب بالکل صحیح رہتا ہے  
اس لئے آپ اس تقریر کو چھوڑیں کوئی دواء بتائیں تو میں اس  
پر غور کروں گا۔“

### ⑥۵ دل کے اسپیشلسٹ کی درخواست پر:

دل کے ایک مشہور اسپیشلسٹ نے حضرت اقدس سے آپ کے دل کا معائنہ  
کرنے کی درخواست پیش کی تو حضرت اقدس نے فرمایا:

”آپ میرا دل کیا دیکھیں گے میں آپ کا دل دیکھ رہا ہوں مجھ  
سے اپنے دل کا علاج کروائیں۔“

جامع عرض کرتا ہے کہ ایک بار مکہ مکرمہ میں وہاں کے سب سے بڑے ہسپتال  
کے بہت بڑے ڈاکٹر نے حضرت اقدس سے دل کا معائنہ کرنے کی اجازت چاہی۔  
حضرت اقدس نے فرمایا:

”میں کبھی کسی ڈاکٹر کو اجازت نہیں دیتا لیکن آپ مکہ مکرمہ میں  
رہتے ہیں اس لئے آپ کی رعایت کرتا ہوں معائنہ کر لیجئے۔“

انہوں نے معائنہ کر کے بتایا:

”میں نے ایسا دل صرف دو بزرگوں کا دیکھا ہے، ایک حضرت  
شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دوسرے  
آپ۔“

### ⑥۶ مخالفت کرنے والوں سے:

جو لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں اگر وہ میری حقیقت جان لیں تو اور زیادہ

مخالفت کریں اور اگر اپنی حقیقت جان لیں تو جتنی کر رہے ہیں اتنی بھی نہ کریں۔

## ⑥۷ افتاء کے لئے اہم چیز:

افتاء کے لئے وسعت مطالعہ کی بنیاد عوام کے حالات سے واقفیت اور تفقہ کی زیادہ ضرورت ہے اور تفقہ تقویٰ پر موقوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهْهُ فِي الدِّينِ﴾ (بخاری)

”جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں تفقہ عطا فرماتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ صرف اپنے فرمانبردار اور متقی شخص سے فرماتے ہیں نافرمان سے نہیں۔

## ⑥۸ معمولات پر مداومت:

زندگی میں نظم و ضبط پیدا کیجئے اس لئے کہ جب تک اوقات منظم نہ ہوں کام نہیں ہو پاتے اور اگر ہوتے بھی ہیں تو اس طرح کہ اگر دس کام کرنے تھے تو دو چار ہی ہو پاتے ہیں باقی کا نامہ ہو جاتا ہے، نامہ سے بچنے کا بہت اہتمام رکھیں جو بھی معمولات ایک بار مقرر کر لئے جائیں پھر انہیں پابندی سے اداء کیا جائے مثلاً ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو دس پارے تلاوت کر لئے اور دوسرے دن بالکل بھٹنی، عمل خواہ کم ہو مگر روزانہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿أَحِبِّ الْأَعْمَالَ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمَهَا وَأَنْ قَلَّ﴾ (متفق علیہ)

”اللہ تعالیٰ کے ہاں سب اعمال سے زیادہ محبوب وہ ہے جس پر زیادہ مداومت ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔“

## ۶۹) امام اور منتظر کے جھگڑوں کی وجوہ:

حضرت حکیم الامتہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”امام محلہ والوں کی بیوی ہوتا ہے۔“

مطلب یہ کہ محلہ کا ہر شخص امام پر حکومت چلاتا ہے۔ اس زمانے میں شوہر غالب اور بیوی مغلوب ہوا کرتی تھی آج کے حالات کے مطابق میں نے اسے یوں کرایا:

”امام مقتدیوں اور منتظر کا شوہر ہے۔“

ائمہ مساجد کا جو مقام اور حیثیت ہونی چاہئے وہ لوگوں کی نظر میں نہیں، اس کی

وجوہ یہ ہیں:

① سب سے اہم وجہ خود ائمہ کا رویہ ہے۔ انہیں چاہئے کہ دین کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے دین کی خدمت کریں، اس کے برعکس یہ حضرات بے دین انتظامیہ کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنے رہتے ہیں، اس لئے کہ اگر یہ انتظامیہ کی بات نہیں مانیں گے تو انتظامیہ انہیں نکال دے گی لہذا فکر معاش کی وجہ سے یہ دین کے وقار کو بھروسہ کرتے ہیں جس کا وبال یہ پڑتا ہے کہ یہ خود مخلوق کی نگاہ میں بے عزت ہو جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ کہہ دیں کہ اس طرح ہم کام نہیں کریں گے تو دیکھئے پھر کیسے لوگوں کا دماغ درست ہوتا ہے مگر یہ لوگ تو ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ کہیں نوکری ختم نہ ہو جائے، اس سلسلے میں کچھ قصے سن لیجئے قصوں میں بڑی عبرت اور سبق ہوتا ہے۔

① حضرت گلگویی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب خانقاہ سنبھالی تو وہاں کچھ لوگ آگئے اور حضرت سے کہنے لگے کہ آپ کو کوئی حق نہیں یہاں یہ سب کام کرنے کا۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سنبھالو اپنی خانقاہ، ہم جا رہے ہیں۔ وہاں جو طلبہ تھے ان میں

افغانی بھی تھے انہوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ نہ جائیں ہم دیکھ لیں گے ان لوگوں کو، ان کے دماغ درست کر دیں گے مگر آپ نہ رکے، خانقاہ چھوڑ کر چلے گئے پھر جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا کچھ دن بعد وہی لوگ منت سماجت کر کے واپس لے کر آئے۔

④ حضرت حکیم الامتہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خانقاہ سنبالی تو وہاں کچھ لوگ مل کر حضرت کے بارے میں یہ باتیں کرنے لگے کہ انہیں کس نے حق دیا ہے کہ یہ خانقاہ پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں ہم انہیں یہاں سے نکالیں گے۔ حضرت تک یہ بات پہنچ گئی کہ وہ لوگ یہاں آنے والے ہیں تو حضرت نے نگہ کے نگران سے بات کر لی (قبضات اور دیہات میں مسافر خانے کو نگہ کہتے تھے) کہ خانقاہ میں جو کام کیا کرتا ہوں وہ یہاں نگہ میں کروں گا وہ راضی ہو گیا۔ حضرت نے ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی اپنا بستر باندھ لیا جب وہ لوگ بات کرنے آئے تو حضرت نے بات کرنے سے پہلے ہی انہیں دکھا دیا کہ وہ بستر بندھا رکھا ہے سنبالو اپنی خانقاہ میں جا رہا ہوں وہ لوگ بہت نارام ہوئے اور حضرت کو جانے نہیں دیا۔

⑤ میرے ابتدائی دور میں اسلام آباد سے ایک شخص نے مجھے لکھا کہ یہاں حکومت نے ایک عالیشان مسجد بنوائی ہے، جس میں خطیب مقرر کرنے کے لئے کوششیں اخباروں میں یہ اشتہار دیا ہے:

"خطیب کے لئے بہت بڑی تنخواہ، وزیر کے برابر گرانے اور رہائش کے لئے بہت عالیشان بنگلا ہوگا، علماء و درخو تیس دیں، پھر انہیں انٹرویو کے لئے بلایا جائے گا، انٹرویو کے لئے آمد و رفت کے مصارف و درخواست و بندہ خود برداشت کرے گا، انٹرویو کے بعد کسی کو منتخب کیا جائے گا۔"

اگر آپ تشریف لے آئیں تو انٹرویو کے بغیر ہی آپ کا تقرر ہو جائے گا۔ میں نے

انہیں جواب میں لکھا:

”میں خود تو کسی قیمت پر بھی یہ کام کرنے کو تیار نہیں،  
البتہ آپ کو انتخاب خطیب کا صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کشنر  
صاحب کو میری طرف سے صحیح طریقہ یہ بتائیں:  
آپ اخباروں میں اشتہار دینے کی بجائے جامعات اسلامیہ  
کے رؤساء سے رابطہ قائم کریں، کیونکہ وہی صحیح عالم کا انتخاب  
کر سکتے ہیں، جب وہ کوئی عالم منتخب کر دیں تو آپ خود ان کی  
خدمت میں حاضر ہو کر درخواست پیش کریں، مناسب ہوا تو  
میں بھی آپ کی سفارش کر دوں گا۔ صحیح طریقہ بس یہی ہے کہ  
جسے ضرورت ہے وہی درخواست پیش کرے، علماء کی شان سے  
بہت بعید ہے کہ وہ اسامی کے لئے عرضیاں گزاریں اور پھر  
انٹرویو دیں، جو شخص درخواست اور انٹرویو کے ذریعہ منتخب ہوگا  
وہ صحیح عالم نہیں ہو سکتا۔“

دین کا کام استغناء کے ساتھ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

ہے:

﴿وَمَنْ يَسْتَعْنِ بِغِنَى اللَّهِ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ بِعَفْوِ اللَّهِ﴾

(بخاری)

”جو غیر اللہ سے مستغنی رہنا چاہے گا اللہ اسے مستغنی رکھے گا  
اور جو غیر اللہ کی احتیاج سے بچنا چاہے گا اللہ اسے بچائے گا۔“

اور فرمایا:

﴿لَوْ نَعِمَ الرَّجُلُ الْفَقِيهَ فِي الدِّينِ اِنْ اَحْتَجَّ اِلَيْهِ لَفَعَّ وَاِنْ

اَسْتَعْنَى عَنْهُ اَغْنَى نَفْسَهُ﴾ (رزین)



”ایسا فہم دین رکھنے والا شخص بہت اچھا ہے کہ لوگ اس سے دین حاصل کرنے کی احتیاج ظاہر کریں تو نفع پہنچائے اور اگر لوگ اس سے بے پروائی ظاہر کریں تو وہ ان سے مستغنی رہے۔“

⑤ دارالعلوم کورنگلی کے ایک منتہی طالب علم اپنے ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنے آئے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہیں، آپ کے سامنے ایک نہایت حسین عورت خوب زیب و زینت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے اور خوشامد و تملق کر رہی ہے کہ حضرت امام اس کی طرف ایک نظر دیکھ لیں مگر وہ نہیں دیکھ رہے، اپنے کام میں مشغول ہیں۔ میں نے جواب میں کہا کہ آپ معقولات زیادہ پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہاں میرے اسباق اکثر معقولات کے ہیں۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ آپ کو مستقبل میں اپنے معاش کی زیادہ فکر ہے کہ رزق کہاں سے ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تو بہت فکر ہے، اتنی پریشانی ہے کہ کبھی رات کو خیال آجاتا ہے تو نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا علم پڑھیں بوعلی سینا کا نہیں، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا علم پڑھیں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں تو فکر رزق نہیں رہے گی۔ خواب میں جو حسین اور مزین عورت دکھائی گئی ہے وہ دنیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب آخرت کے پاس دنیا ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے۔

﴿انہ الدنیا وہی راغمة﴾ (ترمذی)

طالب آخرت بن جاؤ تو دنیا ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور آپ قبول نہیں کریں گے، اس کی کیوں اتنی فکر لگی ہے۔

⑥ عوام کی نظر میں ائمہ کی وقعت نہ ہونے کی پہلی وجہ تو ہو گئی ائمہ کا غلط رویہ دوسری وجہ یہ ہے کہ مساجد کی انتظامیہ میں علماء کے بجائے جاہل لوگ ہوتے ہیں

جنہیں دین کے مسائل کا علم نہیں ہوتا اور جاہل ہونے کے باوجود وہ خود کو علماء سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ نہایت صحیح ہے کہ عالم جاہل کے تحت نہ کر دین کا کام کرے۔ اس طرح دین کے کام صحیح نہیں ہو سکتے، علاوہ ازیں اس میں دین اور علماء دین کی بے حرمتی ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ انتظامیہ میں علماء کو شامل کیا جائے تاکہ وہ تمام امور کو حدود شرعیہ کے تحت انجام دیں۔

یہ جو دو وجوہ میں نے بتائی ہیں ان کا ایک بہت بڑا فساد یہ ہے کہ آئے دن انکر اور فتنہ کے درمیان اختلافات ہوتے رہتے ہیں پھر جب فتنہ امام کو ہٹانا چاہتی ہے تو امام بچتے نہیں بلکہ مقتدیوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور پھر فتنہ سے جھگڑا ہوتا ہے، مقدمہ بازی تک نہایت پہنچ جاتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کا مقدمہ ہے مولویوں کا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر اجرت پر مدت معین کرنی جائے تو اس وقت تک جانبین پابند ہیں اور اگر مدت مقرر نہیں کی تو صرف ایک قمری ماہ تک جانبین پابند ہیں۔ عموماً فتنہ کوئی مدت تو مقرر کرتی نہیں اس لئے ہر قمری مہینہ پورا ہو جانے پر جانبین کو اختیار ہے، امام پھوڑ کر جاسکتا ہے اور فتنہ امام کو ہٹا سکتی ہے دونوں آزاد ہیں۔

ہمارے پاس امام اور فتنہ کی طرف سے بہت استغناء آتے رہتے ہیں، امام فتنہ کو برا کہتا ہے اور فتنہ امام کو، اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جانبین کسی محقق اور متقی مفتی کو متفقہ طور پر حکم تسلیم کر لیں اور یہ لکھ کر دیں کہ حکم جو بھی فیصلہ کرے گا جانبین اسے قبول کریں گے، اس طرح پر جانبین کے علاوہ دو گواہوں کے بھی دستخط ہوں، پھر جانبین اپنی اپنی شکایات لکھ کر دیں اس کے بعد حکم جو بھی فیصلہ کر دے اس پر عمل کریں۔

## ⑤ ادب کا تقاضا:

بعض لوگ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے بارے میں ”ازواج

”مطہرات“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ خلاف اہل حق ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مؤمنین کی باتیں قرار دیا ہے:

﴿وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ (۳۳-۱۶)

کیا کوئی اپنی ماں کو ”میرے باپ کی بیوی“ کہہ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کہہ سکتا، اس لئے اہل حق کا تقاضا یہ ہے کہ ”ازواج مطہرات“ کی بجائے ”اہل حق المؤمنین“ کہا کریں۔

### ۴۱) روزہ شہوت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”جس کو شادی کرنے کی استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے۔“

(متفق علیہ)

روزہ شہوت کو کمزور کر دیتا ہے، نفس کو خسی کر دیتا ہے، اس پر کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھنے سے بعض لوگوں کی شہوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو روزے کے ذریعہ شہوت کو توڑنے کے بارے میں فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پے در پے روزے رکھتا رہے یہاں تک کہ نفس بالکل مدحال ہو جائے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ: **فعلیہ الصوم** سے ثابت ہوتا ہے، مسلسل روزے رکھنے سے شہوت کمزور پڑے گی چند روزے رکھنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو گا۔ روزہ رکھنے سے شہوت بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ روزہ سے روح میں کثافت کم ہوتی ہے اور لطافت بڑھتی ہے، لطافت ایک خاص درجہ تک زیادت شہوت کا باعث بنتی ہے پھر مسلسل روزے رکھنے سے ضعف غالب آجاتا ہے تو شہوت میں انکسار آنے لگتا ہے۔

## ۷۲) تقویٰ شرطِ فقہ :

ہمارے خاندان کے ایک فقیہ عالم حضرت گلگویی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت تھے بہت متقی تھے، آخر عمر میں آپ کی بینائی جاتی رہی تھی، آپ کے ایک قریبی رشتہ دار جید عالم ایک جامعہ میں صدر مدرس تھے، صدر مدرس صاحب کی سہولت کے لئے جامعہ کی مسجد کے محن سے ان کے گھر کی طرف دیوار توڑ کر دروازہ کھول دیا گیا تھا، یہ فقیہ و متقی بزرگ ایک بار وہاں اپنے عزیز صدر مدرس صاحب کے پاس تشریف لائے، وہ مسجد سے اپنے میزبان کے مکان کی طرف جاتے ہوئے اس دروازہ سے گزرنے لگے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ دروازے صدر مدرس صاحب کی سہولت کے لئے مسجد کے محن کی دیوار توڑ کر کھولا گیا ہے، وہ وہیں رک گئے، ہاتھوں سے دروازے کے دونوں جانب کے ستونوں کو ٹٹولا جو دیوار سے مسجد کے محن کی طرف معمولی سے اٹکے ہوئے تھے، محن کا فرش تقریباً ایک انچ ستونوں کے نیچے آگیا تھا، یہ صورت حال آپ کے علم میں آئی تو فرمایا:

”مسجد بن جانے کے بعد اس کا کوئی حصہ کسی بھی مصلحت سے اس سے خارج کرنا جائز نہیں، مسجد کے فرش کا جو حصہ صدر مدرس صاحب کی سہولت کے لئے کھولے گئے دروازے کے ستونوں کے نیچے آگیا ہے اگرچہ وہ بہت ہی تھوڑا سا ہے پھر بھی اس کا کیا جواز ہے؟“ جامعہ کے مفتی صاحبان، آپ کا یہ فقہ و تحقیق دیکھ کر صدر مدرس صاحب، مہتمم صاحب اور دوسرے مشہور علماء حیران رہ گئے، آپ کے تقویٰ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے فقہ سے نوازا کہ جس کے سامنے بڑے بڑے علماء کرام و مفتیان عظام کے سرندامت سے جھک گئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ان تَقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾

”اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی بصیرت عطا فرمائیں گے۔“

### ۴۳) مرید کو بھگانے پر انعام اور بھاگنے والے کو جوتے:

اگر کوئی میرے کسی عاقل مرید کو کانے اور بھگائے تو اسے پچاس روپے اور مولوی کو بھگائے تو پانچ سو روپے اور کسی مفتی یا خلیفہ کو بھگائے تو پانچ ہزار روپے دیں گے۔ (ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ بھاگنے والے کو کیا دیں گے؟ تو حضرت اقدس نے فرمایا) بھاگنے والے کے سر میں پانچ سو جوتے۔ یہ اس مرید کے لئے ہے جو از خود بھاگے اور اگر کسی کے بھگانے سے بھاگا تو دونوں اپنے اپنے انعام آپس میں تقسیم کر لیں۔ بھگانے والا ڈھائی سو روپے بھاگنے والے کو دے اور بھاگنے والا ڈھائی سو جوتے بھگانے والے کو لگا دے۔ بھگانے والے کو انعام دیتے اور بھاگنے والے کو جوتے لگانے کی وجہ یہ ہے کہ بھگانے والے میں دو خوبیوں ہیں ایک محنت دوسری اس کا محنت میں کامیاب ہو جانا بھی کمال ہے اور بھاگنے والے نالائق میں دو نساہتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کھٹل اعتماد حاصل کرنے سے پہلے بیعت ہونے کی حماقت کیوں کی؟ دوسرا یہ کہ طریق کو بدنام کر رہا ہے۔

### ۴۴) جہاد مفرح و مقوی غذا:

مجھے نو عمری میں دودھ موافق نہیں تھا اس کے باوجود میں دودھ پیتا رہا اور پینے کے بعد دعاء پاتا اور:

﴿اللہم بارک لنا فیہ و زدنا منہ﴾

پڑھنے کا معمول جاری رکھا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دودھ کو ایسا موافق بنا دیا کہ اب چار گھنٹوں روزانہ پیتا ہوں، میری غذا کا زیادہ تر انحصار دودھ اور شہد

پر ہے اور اس سے بھی زیادہ جہاد پر، جہاد بھیسی لذیذ اور مفرح و مقوی تو کوئی غذا ہے ہی نہیں، جہاد کے ذکر ہی سے خون میں جوش اور قلب و روح میں کیف و مستی اور فرح و سرور پیدا ہو جاتا ہے۔

وذكرک للمشاق خیر شراب  
وکل شراب دونه کسراب  
”تمہارا ذکر مشاق کے لئے بہترین مشروب ہے جس کے سامنے  
ہر مشروب سراب کی طرح ہے۔“

### ۵۵) اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ:

میں دعاء کرتا ہوں کہ یا اللہ میری زبان اور قلم سے کوئی بات غلط یا مسخرانہ نہ گئی ہو تو تو اسے کیسٹوں اور کتابوں سے محو فرما دے اور جو باتیں تو نے صحیح کہلوادیں یا لکھوادیں انہیں قیامت تک قائم و دائم فرما دے اپنی رحمت سے نافع بنا۔ یہ دعاء کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی اس شان کا واسطہ دیتا ہوں جس کا ذکر اس آیت میں ہے:

﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِقُ﴾ (۱۳ - ۱۳۹)

آپ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہو گا کہ کیسٹوں میں بھری ہوئی اور کتابوں میں چھپی ہوئی باتیں محو کیسے ہوں گی؟ اسے سمجھنے کے لئے نور تنو والے ڈاکٹر صاحب کا قصہ سوج لیا کریں، وہ کہتے تھے کہ پتے میں بہت سی پتھریاں ہیں، ان کے خیال میں جو پتھریاں تھیں وہ کیسے محو ہو گئیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ سے غائب ہو گئیں (اس انجوبہ قدرت کی تفصیل انوار الرشید جلد ثالث \*نوائے مغرب کی دادوں میں\* کے تحت عنوان الت شاب ففروج میں ہے۔ (جامع)

## ۷۶) نالائق متعلقین سے حفاظت کی دعاء:

بزرگوں کی وفات پر ان کی نالائق اولاد، نالائق مرید اور نالائق شاگرد ان پر یہ ظلم ڈھاتے ہیں:

۱) میت کو صرف بچ بڑھانے کی خاطر روکے رکھتے ہیں۔

۲) گھنٹوں گھنٹوں رسم رونمائی ہوتی ہے۔

۳) میت کی تصویریں لی جاتی ہیں اور اس کے لئے باقاعدہ فوٹو گرافروں کو دعوت دیتے ہیں۔

۴) ان کے علاوہ بھی کئی بدعات و رسوم اور طرح طرح کی خرافات کا ارتکاب ہوتا ہے۔

یہ ہیں بزرگوں کے نادان دوست، ان کی نالائق اولاد، نالائق مرید اور نالائق شاگرد، انتہائی درجے کے نالائق اور نااہل۔ یہ ظلم دیکھ دیکھ کر میں یہ دعاء کیا کرتا ہوں:

”یا اللہ! میرے مرنے کے بعد ایسی نالائق اولاد، ایسے نالائق مریدوں اور نالائق شاگردوں سے میری حفاظت فرما، ان سب کو اپنی رحمت سے لائق بنا دے، اگر کوئی بد نصیب ہی رہ گیا تو پھر یا اللہ! میری اس سے حفاظت فرما۔“

آپ لوگ بھی اگر وصیت کر دیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہم پر یہ ظلم نہ کیا جائے بلکہ ہمارے کام سنت کے مطابق کئے جائیں تو مجھے بھی اطمینان ہو جائے کہ میرے متعلقین لائق ہیں۔

## ۷۷) تحیۃ اللہ:

میں نے نوافل کا نام ”تحیۃ اللہ“ رکھ دیا ہے۔ جیسے تحیۃ الرضوہ ہے۔ تحیۃ المسجد

ہے ایسے ہی تخیزہ اللہ ہے۔ نقلی عبادت ایسے اخلاص سے کرنی چاہئے کہ جیسے آپ کو دوست سے کوئی کام نہیں ویسے ہی اس سے ملنے چلے گئے، دوست پر ہمتا ہے کیسے آئے؟ آپ کہتے ہیں کہ بس سلام کے لئے آیا ہوں، ویسے ہی حاضر ہی ہو گئی اور بس زیارت ہی کے لئے آیا ہوں۔ فرض تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں اداء کئے جاتے ہیں جبکہ نقل اللہ کا حکم نہیں بس ایک سلامی ہے، ایسا کیوں؟ تاکہ جو انس و محبت و تعلق پہلے سے ہے اس میں مزید ترقی ہوتی رہے۔

## ۴۸) یا اللہ میرے دل کو تھام لے:

میں اس آیت کو بہت سوچتا ہوں:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ

رَأَيْتَ أَنَّ امْسَكَهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ ﴿۳۵﴾ (۳۱-۳۵)

”بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو ان کی جگہ سے ہٹنے سے

تھامے ہوئے ہے اور اگر وہ ہٹ گئے تو انہیں کوئی تھامنے والا

نہیں۔“

سوچتا ہوں کہ میرے اللہ نے سب آسمانوں، ساری زمین اور کائنات کے اتنے

بھاری بھاری نظام کو تھام رکھا ہے تو میرا دل کیا چننے ہے، یہ تو پڑا جیسا ہے، اسے تھامنا

میرے اللہ کے لئے کیا مشکل ہے، یا اللہ میرے دل کو تھام لے:

﴿اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ﴿۱﴾﴾

”یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔“

## ۴۹) رب کریم کی شان تربیت:

ہشان کسٹی ہی پرواز کرے، پرندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نیز اس انتہائی ترقی



کے زمانے میں بھی کوئی طیارہ یا بحری جہاز جب تک کسی نشان کو سامنے نہ دیکھ رہا ہو محض قطب نما سے زاویہ قائم کر کے سیدھا نہیں جاسکتا، بلکہ مقام مطلوب کا مقام روانگی سے جو زاویہ قائم کر کے چلتا ہے وہ زاویہ دونوں مقامات کے درمیان خط مستقیم پر چلنے سے قدم قدم پر بدلتا ہے اس لئے اگر کوئی چیز ایک زاویہ قائم کر کے روانہ ہو تو وہ مقام مطلوب تک پہنچنے کی بجائے قطب مقناطیسی کے گرد چکر کاٹی رہے گی، اس بنا پر زاویہ کی مدد سے رفتار کی دو صورتیں ہیں:

① خط مستقیم کے زاویے کی نسبت اتنا بڑا زاویہ رکھا جاتا ہے کہ جہاز چکر کاٹ کر مقام مطلوب پر پہنچ جائے۔

② خط مستقیم کے زاویے پر روانگی شروع کی جاتی ہے پھر ہر ساٹھ میل کے بعد دائیں یا بائیں ایک میل بہت کر اس فرق کو نکالا جاتا ہے۔

مگر پرندے دور دراز کا سفر کسی قطب نما کی مدد کے بغیر براہ راست طے کرتے ہیں، خصوصاً شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿انم نکلی من کل الشجرت فاسلکی سبل ربک ذللاً﴾ (۱۶۱-۱۶۲)

اس سے ثابت ہوا کہ رب کریم کی شان تربیت نے شہد کی مکھی کی پرواز کے لئے بہت دور دراز کے راستے مسخر فرما دیئے ہیں، مکھیوں کے ماہرین اس کا مشاہدہ جاتے ہیں۔

جب میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں تو یہ دعاء کرتا ہوں کہ یا اللہ! جیسے تو شہد کی مکھی کو اپنے مقصد میں سیدھا چلاتا ہے ہمیں اپنی محبت و رضا و تعلق کے راستے میں ایسا ہی سیدھا چلا، کوئی رکاوٹ اثر نہ کر سکے۔

⑧۰ شری حلال:

بے دین لوگ بیوی کو تین طلاقیں دے کر حرام کر لیتے ہیں پھر پچھتاتے ہیں کہ

اب کیا کیا جائے، کچھ تو ان میں سے غیر مقلدین سے فتویٰ لے آتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں تو ایک ہزار بار طلاق دینے پر بھی ایک ہی طلاق پڑتی ہے اور بعض لوگ حلالہ کے ذریعہ اس عورت کو دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں۔ حلالہ کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کوئی دیوث اپنی بیوی کو طلاق دے کر کسی دوسرے کو دے دے اور وہ اسے استعمال کر کے اس دیوث کو واپس کر دے، ایسی بے غیرتی کی اجازت شریعت کیسے دے سکتی ہے؟ قرآن مجید میں تین طلاقیں کے بعد فرمایا:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْحًا

غَيْرَ ذَاكَ﴾ (۲۱-۲۳۰)

یعنی شوہر نے تین طلاقیں دے دیں بعد میں اتفاقاً اس عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا، اس نے اتفاقاً طلاق دے دی یا مر گیا تو اس عورت کا پہلے شوہر سے نکاح کر لینا جائز ہے، حلالہ کے یہ معنی نہیں کہ شرائط کے ساتھ حلالہ کی نیت سے کوئی مرد نکاح کرے اور پھر اس نیت سے طلاق دے دے کہ زوج اول اس عورت سے نکاح کر سکے۔ اگر مرد بے طریقہ سے یعنی بنیت حلالہ نکاح ثانی ہوا تو عورت حلالہ تو ہو جائے گی لیکن اس کام میں حصہ لینے والوں پر لعنت بر سے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے:

﴿لَعْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحْلِلِ

وَالْمَحْلِلِ لَهُ﴾ (دارمی، ابن ماجہ)

حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت، حلالہ کروانے والے پر بھی لعنت، حدیث میں ان دونوں پر لعنت کی تو صراحت ہے لیکن ایسا حرام کام کروانے والی عورت لعنت سے کیسے بچ سکتی ہے، تینوں پر لعنت۔ ساتھ ہی یہ بھی سوچیں کہ جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو اس کام کے لئے جواز کا فتویٰ دینے والے لعنت سے کیسے بچیں گے؟ "حرام" کا نام "حلالہ" رکھ کر خوب خوب حرام کاریاں کی

جاری ہیں۔ ایسی دیوثی کو اسلام کی طرف منسوب کر کے پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ بے دین لوگوں نے اس "شرعی حلال" کا "شرعی حلال" نام رکھ دیا ہے۔

## ۸۱) سیاست کے معنی:

سیاست کے لغوی معنی ہیں تدبیر کرنا اور مقصد ہے آخرت کی تدبیر دنیا کی تدبیر بھی دراصل آخرت کی تدبیر کے تابع ہے اسی کے لئے ہے۔ سیاست کی کچھ اہمیت اور مدارج ہیں:

① سب سے اول ذاتی تدبیر، اپنی ذات کے لئے کہ اپنے اوپر اللہ نے جو اختیار دے رکھا ہے وہ برباد نہ ہو، اپنی صلاحیتوں کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ ذخیرہ آخرت بنے۔

② اہل و عیال کی تدبیر

③ اہل محلہ کی تدبیر

④ اپنے شہر کی تدبیر

⑤ اپنے علاقے کی تدبیر

⑥ اپنے ملک کی تدبیر

⑦ پوری دنیا کی تدبیر

اس میں جو اقرب ہے وہ زیادہ اہم و اقدم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ أَحْسَبُكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (۲۶ - ۲۱۳)

"اور اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈرا۔"

دوسری جگہ فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (۲۲ - ۶)

”اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔“

اپنے اور دوسروں کے اعمال کی اصلاح کی فکر و توجہ میں تقدم و تاخر زمانی نہیں بلکہ ذاتی ہے۔ زمانی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اپنی اصلاح نہ ہو دوسروں کی اصلاح کی طرف توجہ نہ کرے، یہ مراد نہیں۔ تقدم ذاتی مراد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اہمیت و فکر تو اپنی اصلاح کی زیادہ ہو مگر ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کے لئے بھی فکر و محنت جاری رہے، یہ نہیں کہ جب تک اپنی اصلاح نہ ہو جائے، بیوی بچوں کو کھلا پھوڑوے وہ جو چاہیں کرتے رہیں۔ فرضیکہ جب تک اول نہ بہر تام نہ ہو اس وقت تک دوسروں کی طرف توجہ نہ کرنا غلط ہے، بس صرف اہمیت کا فرق ہے۔ دوسروں کی نسبت اپنی اور اپنے اہل و عیال کی فکر اور اس پر محنت زیادہ ہو۔ عقلی لحاظ سے بھی یہ حقیقت پوری دنیا کے مسلمات میں سے ہے۔

## ۸۲) تصوف فقہ کی اعلیٰ و افضل قسم:

فقہ کی دو قسمیں ہیں، فقہ ظاہر اور فقہ باطن۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقہ کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ توضیح میں یوں نقل کی گئی ہے:

﴿معرفة النفس ما لها وما عليها﴾

پھر فقہ باطن کی اہمیت و افضلیت کی وجہ سے اس کا مستقل نام ”تزکیہ نفس اور سلوک“ پڑ گیا جیسے کہ نافہ میں ہرن کا خون ہی ہوتا ہے مگر عموماً اس کی وجہ سے اس کا مستقل نام پڑ گیا مشک یا کستوری۔

فان تفرق الانام وانت منهم

فان المسک بعض دم الغرال

اسی طرح یا قوت بھی پتھر ہے مگر وہ بہت قیمتی ہے اس لئے اس کا عام پتھر سے

الگ مستقل نام پڑ گیا گویا کہ جنس ہی الگ ہے ۔

محمد بشر لبس كالبشر  
بل هو باقوت والناس كالحجر

فقد باطن کی زیادہ اہمیت اس لئے ہے کہ فقہ ظاہر سے متعلقہ اعمال کی قبولیت اور ان پر اجر کا مدار صلاح قلب پر ہے جو فقہ باطن سے مقصد ہے، صلاح قلب کے سوا بعض اعمال تو قبول ہی نہیں جنت کی بجائے جہنم کا سامان ہیں اور بعض قبول ہیں تو ان کا اجر ناقص ملتا ہے، صلاح قلب سے اعمال قبول ہوتے ہیں اور اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔

### (۸۳) مجاہدہ اجر میں زیادتی کا باعث:

کسی عمل پر اجر کا ملنا اور باطنی ترقی، اصلاح قلب اور اس کی استعداد کا بڑھنا اور جدا جدا باتیں ہیں، حالت فسق میں جو نیکی کی جاتی ہے اجر تو اس کا بھی ملے گا لیکن باطنی ترقی نہیں ہوگی۔ باطنی ترقی اس کام میں ہوتی ہے جس میں مجاہدہ شامل ہو۔ مجاہدات اور قربانیوں کے ساتھ جو نیکی ہوگی اس میں اجر بھی زیادہ اور ترقیات روحانیہ بھی، اور بلا مجاہدہ یا فسق کے ساتھ جو نیکی ہوگی اس میں اجر تو ہے مگر باطنی ترقی نہیں ہوگی۔

### (۸۴) علم میں ترقی کا طریقہ:

علم میں ترقی اس وقت ہوتی ہے جب ہر بڑے پھولنے سے ہاتھیں پونہ پھتا رہے، اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے خواہ بڑے سے ہو یا مساوی سے یا پھولنے سے، پھولنوں سے سیکھنے میں بھی عار نہ کرے پونہ پھتا ہی رہے اس سے علم میں ترقی ہوگی اور مجاہدہ کبر کا علاج بھی، خاص طور پر اہل مجلس کے سامنے پونہ پھتنے کی عادت ڈالیں۔

## ۸۵) برہنہ حالت میں بولنے کا حکم:

جاہل صوفی برہنہ حالت میں بات کرنے کو بائبل ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں، یہ علم شریعت سے جہالت کی وجہ سے دین میں غلو ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لباس اتارے ہوئے ہوں تو اس حالت میں بات کرنا شرعاً ناجائز نہیں بلکہ طبعی طور پر برا معلوم ہوتا ہے۔ اگر حیاء طبعی حیاء شرعی سے معارض ہو تو حیاء طبعی واجب الترتک ہے، اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو حیاء طبعی محمود ہے بلکہ حیاء شرعی کا گویا ایک فرد ہوگا۔ بس حیاء کا تقاضا ہے کہ اس حالت میں بات نہ کرے۔ اگر ضرورت کے باوجود بھی نہیں بولنا بلکہ عجیب عجیب آوازیں نکالنا ہے (ہوں، اول، آ، این وغیرہ) حتیٰ کے دوسرے کو بات سمجھنے میں دشواری ہو تو یہ ایذاء غیر ہے جو حرام و ناجائز ہے کیونکہ یہ حکم شرعی ترک ایذاء مسلم سے معارض ہے۔

## ۸۶) معتبر پردہ کون سا ہے؟:

لوگوں نے از خود ہی پردہ کی دو قسمیں بتائی ہیں کہتے ہیں کہ فلاں کے ہاں پردہ تو ہے مگر شرعی پردہ نہیں۔ خوب سمجھ لیں کہ شریعت میں پردہ کی دو قسمیں نہیں صرف اور صرف ایک ہی قسم ہے اس لئے جن گھرانوں میں شریعت کے مطابق پردہ نہیں وہاں درحقیقت پردہ ہے ہی نہیں کیونکہ پردہ تو وہی معتبر ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔

## ۸۷) کتاب صحیح ہونے کی شرط:

کتاب کے صحیح و مستند علیہ ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط اس کا مخدوم ہونا بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب جب تالیف کی گئی اس وقت سے مسلسل طبع ہوتی آ رہی ہے اور اس پر شروح و حواشی کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ اگر تالیف کے

بہت عرصہ بعد طبع ہو یا جلدی طبع ہو گئی لیکن اہل علم نے اس پر حواشی و شروح وغیرہ کا کام نہیں کیا تو وہ مخدوم نہیں، اس لئے کتب معتد علیہا سے نہیں جیسے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق وقت تالیف کے بہت عرصہ بعد طبع ہوئیں جس کی وجہ سے ان پر پورا اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

### ۸۸) اسلام کا تصور قومیت:

اسلام میں قومیت کا تصور یہ ہے کہ سب مسلمان ایک قوم ہیں اور کافر دوسری قوم، ذات مثلاً اعموان، آرائیں راجپوت وغیرہ کی بنیاد پر انجمن بنانا (تحفظ حقوق وغیرہ کے لئے) صحیح نہیں تمام فسادات و امراض انہی تعصبات سے جنم لیتے ہیں۔ اہل بال نے خوب کہا ہے۔

ان تارہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے  
جو پیر صحن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

یہ ذاتیں اور قومیں اور قبائل وغیرہ تو اللہ تعالیٰ نے شائستہ کے لئے بنائے ہیں، اللہ کے نزدیک عزت و ذلت کا مدار صرف تقویٰ پر ہے، ان کی نظر میں معزز صرف وہ ہے جو ان کی نافرمانی سے بچے، فرمایا:

﴿يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكروا الشيء وجعلنكم  
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم﴾

(۱۱۳-۱۱۴)

### ۸۹) اللہ کی محبت کا چشمہ:

ایک بادشاہ بڑے عیش و آرام سے اپنے وسیع وسیع مملکت میں بے شمار بیویوں، لونڈیوں، شہزادوں، شہزادیوں اور خدام میں زندگی بسر کر رہا تھا، مملکت میں پانی کا انتظام

باہر سے شیریں پانی کی نہروں سے کیا گیا تھا، کسی دانشمند نے بادشاہ سے کہا کہ دشمن کا کوئی اعتبار نہیں، ہو سکتا ہے کہ حملہ ہو جائے تو وہ باہر سے آئے والی نہریں کاٹ دے اس لئے محل کے اندر کوئی چشمہ یا کوئی کنواں کھدو لیں تاکہ بوقت ضرورت زندگی تو بچ سکے لیکن بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی اس نے سوچا کہ بلاوجہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آخر ایسا ہی ہوا دشمن نے حملہ کیا اور محل شاہی کا محاصرہ کر کے پانی کی تمام نہریں جن سے محل میں پانی جاتا تھا کاٹ دیں اب تو جان پرہیز گئی محل میں پینے کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں، کیا کریں، بہت حسرت ہوئی کہ کاش میں محل کے اندر چشمہ کھود لیتا خواہ شہانہ ہو تا کھاری ہی ہو تا کم از کم پان تو بچ جاتی۔ مگر اس کی حسرت و افسوس کسی کام نہ آئی خود بھی اور خانوادہ شاہی بھی یونہی تڑپ تڑپ کر ختم ہو گئے۔

حضرت روی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثل بیان کر کے فرمایا کہ دنیا کی ساری لذتیں اور عیش و آرام کے اسباب سب خارجی اور بیرونی نہروں کی طرح ہیں موت کے وقت یہ سب کاٹ دی جائیں گی اگر دل کے اندر اللہ کی محبت کا چشمہ ہوا اگرچہ کھاری ہی ہو تو اس سے کام چل جائے گا ورنہ تو بادشاہ کی طرح حسرت ہوگی۔

یہاں کھاری چشمہ سے مراد اتنی محبت ہے جو دنیا و آخرت کی جہنم سے بچالے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے ورنہ تو موت کے وقت حسرت ہوگی کہ ہائے کاش! اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ تعلق قائم کر لیتے اگرچہ قلیل ہی ہوتا۔ اس قصہ کو سوچتے رہا کریں اور محاسب کرتے رہیں کہ دل میں اللہ کی محبت کا چشمہ ہے یا نہیں، کہیں بوقت ضرورت (بعد موت) حسرت و پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

## ⑨۰ صلاح قلب کی علامت:

صلاح قلب کی علامت یہ ہے کہ جو کام سامنے آئے اس کے کرنے سے قبل دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ جائز ہے یا نہیں، کسی بڑے سے پوچھے اور ساتھ ہی



ساتھ خود بھی غور و فکر سے کام لے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کھول دیتے ہیں، ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ان تَقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾

(۸-۲۹)

غور و فکر کے بعد دل مطمئن ہو جائے تو اس کام کو کرے ورنہ نہ کرے۔ اگر کسی کے قلب میں جاگزیبیاں یا ناجائز کا خیال پیدا نہیں ہوتا تو یہ فساد قلب کی دلیل ہے۔

### ۹۱) اہل اللہ سے استفادے کا طریق:

جو شخص اہل اللہ کے قول و عمل پر گہری نظر رکھے گا اسے ان جیسی صفات مل جائیں گی اور عمل کی توفیق ہو جائے گی، جب اللہ تعالیٰ کسی کو بنا دیتے ہیں یعنی تعلق مع اللہ حاصل ہو جاتا ہے تو اسے فکر عطاء فرمادیتے ہیں، پھر اس کا کوئی قول یا عمل بے کار نہیں ہوتا اس لئے جو بھی اتباع کی نیت سے غور و فکر سے ان کے قول و عمل کو دیکھے گا اسے نفع زیادہ ہوگا۔

### ۹۲) بے دینیوں کا اشکال:

بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا اسے دنیا و آخرت میں سکون نصیب ہو ہی نہیں سکتا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سخت بے دین لوگ نہایت ہمیش و آرام و عزت میں ہیں اور بہت سے دیندار گناہوں سے بچنے والے قسم قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور ان کی زندگی میں بظاہر کوئی راحت و ہمیش نہیں۔

اس اشکال کا جواب تفصیل سے تو دیتا رہتا ہوں آج ایک نیا جواب سنئے کہ یہ اشکال بھی اس شخص کو ہوتا ہے جس نے گناہ نہیں چھوڑے جس کی وجہ سے اس

میں عقل نہیں ہوتی صحیح بات اس کی سمجھ میں آتی نہیں سکتی اور جس شخص نے گناہ چھوڑ دیئے اسے کبھی بھی یہ اشکال نہیں ہوگا کیونکہ اس پر تو یہ حالت گزر رہی ہوتی ہے کہ بظاہر تکلیف اور بہا ملن راحت و سرور۔

### ۹۳) ”سگابھائی“ کے معنی:

حضرت حکیم الامتہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے وعظ ”طریق القاندر“ میں فرمایا کہ جو عورتیں زادوں (بچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد) سے پرہیز نہیں کرتیں بلکہ انہیں سگابھائی کہتی ہیں یہ سگ سے ہے۔ سگ کے معنی ہیں کتا ”سگا“ میں الف بڑائی کے لئے ہے یعنی ”بڑا کتا“ یہ چاروں قسم ”بڑے کتے“ ہیں بڑے خطرناک ہیں۔ جس کے دل میں درد ہوتا ہے وہ تو طرح طرح سے کہتا رہتا ہے لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہے۔ پر وہ اور ڈاڑھی کے بارے میں جو بات میں کہتا رہتا ہوں حکیم الامتہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی وہی الفاظ مل گئے، فرمایا کہ پر وہ اور ڈاڑھی وغیرہ کے بارے میں بیان کرتے کرتے ہمیں شرم آنے لگتی ہے لیکن لوگوں کو ڈاڑھی منڈاتے منڈاتے شرم نہیں آتی۔ حکیم الامتہ کے کسی وعظ میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کا ہونا از بس مشکل ہے۔ واللہ الخفیظ۔

### ۹۴) مواخذہ کے لئے عقل کافی ہے:

جدید طبقہ کی طرف سے ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ جو بچہ کافر کے گھر پیدا ہوا اس کی فطرت اسلام ماحول، والدین اور رشتہ داروں نے ضائع کر دی اور یہ اس کے مقدر میں تھا کہ اہل کفر کے ہاں پیدا ہوا، لہذا اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو مواخذہ کیوں؟ ویسے بھی بچہ وہی مذہب اختیار کرتا ہے جو اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بلوغ کے بعد انسان کو اس کی عقل سوچنے پر مجبور کرتی

ہے، خصوصاً توحید و رسالت تو عقلی چیزیں ہیں۔ آج اسلام کوئی پوشیدہ مذہب نہیں، دنیا کے کسی قافلے میں، پہاڑ کی اونچی سے اونچی چوٹی پر کوئی رہتا ہو اس نے بھی اسلام کا نام سنا ہے تو اس نے تحقیق و جستجو کیوں نہ کی اس لئے وہ مجرم ہے۔ بھنگلی کا بچہ بھی ضرور سوچتا ہے کہ وہ بھنگلی نہ بنے پڑھ لکھ کر افسر بنے اور بہت سے لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا بھی ہے، تو کفر کے ماحول میں رہ کر وہ تحقیق مذاہب کی طرف متوجہ کیوں نہ ہوا؟ کچھ تو سوچتا، فکر کرتا، کوشش کرتا، عقل کو استعمال میں نہ لانا اور معاد (آخرت) کی فکر نہ کرنا یہی رضا علی الکفر ہے۔

## ⑨۵ زینہ اترتے چڑھتے وقت کے اذکار کی حکمت:

میں دوسروں کی تعلیم کے لئے زینہ اترتے چڑھتے وقت کے اذکار ماثورہ چند بار بلند آواز سے کہتا ہوں۔ اذکار ماثورہ یہ ہیں: زینہ اترتے وقت سبحان اللہ اور چڑھتے وقت اللہ اکبر ان مخصوص مواقع میں ان مخصوص اذکار کی حکمت یہ ہے کہ پستی میں اترتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس لئے بیان کی جاتی ہے کہ وہ پستی سے پاک ہے اور چڑھتے وقت اس خیال کی اصلاح مقصود ہے کہ ہم بلندی پر جا رہے ہیں، بلندی اور کبریائی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔

## ⑨۶ باطنی بلندی اور پستی کی مثال:

بلندی پر چڑھنے کے لئے جھک کر چڑھنا پڑتا ہے اور پستی کی طرف اترنے کے لئے اکڑ کر چلا جاتا ہے، باطنی بلندی اور پستی کا بھی یہی حال ہے، بلندیوں پر پہنچنے والے جھک کر اللہ کے سامنے دب کر تواضع اور بجز و انکسار سے یہ منازل طے کرتے ہیں اور کبر و غرور سے اکڑے رہنے والے پستی میں گرتے ہیں۔

## ۹۷) فساد نیت کی دلیل:

کسی شخص سے اس کے کسی قول یا عمل کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ مختصر دو نوک جواب دینے کے بجائے لمبی تقریر شروع کر دے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اس شخص میں یقیناً فساد ہے۔

## ۹۸) دینی نفع کے لئے طلب عزت:

مناجات مقبول میں ایک دعاء ہے:

﴿اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا و فی اعین الناس

کبیرا﴾

اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں بڑا بننا تو بظاہر حب جاہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسروں کی نظر میں ہم حقیر نہ رہیں تاکہ وہ تکلیف نہ پہنچائیں کیونکہ لوگوں کی ایذا رسانی سے دین کے کاموں میں حرج واقع ہو گا سو اس دعاء سے مقصود خدمت دین کے لئے دفع مضرت و جلب منفعت بھی ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں گے تو دینی استفادہ زیادہ کریں گے اس طرح ان کا بھی فائدہ ہے اور میں بھی ان کی ایذا رسانی سے محفوظ رہ کر دین کا کام زیادہ کر سکوں گا تو میرا بھی فائدہ ہو گا۔

## ۹۹) کسی سے اصلاحی تعلق رکھنے کی برکت:

حضرت اقدس کے متعلقین میں سے ایک بیرون ملک مقیم نے خط میں اپنے بارہ سالہ بیٹے کا قصہ یوں تحریر کیا:

”پاکستانی اسکول کے اساتذ نے میرے بیٹے کو حکم دیا کہ تم ناکی لگا

کر اسکول آیا کرو دوسرے دن میرا بیٹا مدرسہ کی وہ کتاب جس میں لکھا تھا کہ ٹائی لگانا اختیاری ہے ساتھ لے کر گیا اور ایک بوسیدہ سی ٹائی اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لی۔ استاذ پھر صبر کرنے لگے تو فوراً مدرسہ کے قوانین کی کتاب دکھائی۔ اس پر استاذ نے کہا کہ نہیں یہ استاذ کی مرضی پر ہے، ٹائی کہاں ہے؟ میرے بیٹے نے ٹائی نکال کر میز پر رکھ دی، استاذ نے کہا کہ ٹائی لگاؤ بچے نے جواب دیا کہ مجھے اجازت نہیں۔ استاذ نے کہا کس کی؟ جواب "میرے اللہ کی"۔ اس پر استاذ نے کہا کہ بڑے دیندار بنتے ہو۔ اس پر میرے بیٹے نے ٹائی کو فرش پر ڈال کر جوتے سے خوب رگڑا۔ یہ منظر جماعت کے اور سب لڑکے بھی دیکھ رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے، الحمد للہ! اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی دیکھیری فرمائی اور وہ غالب رہا۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ! ایسے واقعات مجھ جیسے ناکارہ کے ساتھ ہونے سے یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے مرشد پاک کی مجھ پر شفقت اور دعاؤں کا اثر ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ ترقی عطاء فرمائیں اور قدر نعمت کی توفیق عطاء فرمائیں آمین۔"

حضرت اقدس نے یہ قصہ اہل مجلس کو سنا کر فرمایا کہ جو لوگ دین پر عمل کرنے میں طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں ان کے لئے اس قصہ میں کتنا بڑا سبق ہے کہ ایک بچہ گھر سے اور تنہا کس طرح بے دین استاذ کے مقابلہ میں دین پر استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے۔

## ۱۰۰) سوتے شیر جاگ اٹھے:

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو مخلوق پیدا فرمائی ہے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کا جسم اللہ تعالیٰ نے خونخوار جانوروں کی طرح بنایا ہے جیسے شیر، دوسری وہ جس کا جسم بھیڑ بکریوں کی طرح بنایا ہے۔ دیکھا جائے کہ انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے، شیر کی طرح بنایا ہے یا بھیڑ کی طرح۔

① شیر کے منہ میں نیچے اوپر دونوں طرف دانت ہوتے ہیں، بکری کے ایک طرف ہوتے ہیں دو طرف نہیں ہوتے۔ انسان کے منہ میں بھی دونوں طرف دانت ہوتے ہیں، تو بتائیں اسے اللہ نے شیر کی طرح بنایا ہے یا بھیڑ کی طرح؟ شیر کی طرح بنایا ہے۔

② دوسرا فرق دانتوں میں ہے کہ شیر کے ناب ہوتے ہیں دونوں طرف بڑے بڑے چار دانت، جنہیں اردو میں نیش کہتے ہیں، بکری کے نیش نہیں ہوتے۔ انسان کے منہ میں بھی شیر کی طرح نوک دار دانت ہوتے ہیں تو یہ شیر ہے یا بھیڑ؟ شیر ہے۔

③ شیر کے پنچے ہوتے ہیں بکری کے کھر ہوتے ہیں۔ اب بتائیں کہ انسان کس قسم میں داخل ہے اس کے شیر جیسے پنچے ہیں یا بکری جیسے کھر ہیں؟ شیر جیسے پنچے ہیں۔

④ شیر کی خوراک گھاس نہیں گوشت ہے۔ بکری گوشت بالکل نہیں کھاتی، بھیڑ بکری گھاس کھاتی ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھیں کہ انسان زیادہ مرغوب غذا کون سی کھاتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے اسے شیر بنایا ہے بکری نہیں بنایا۔ شیر کی جنس میں سے ہے۔

⑤ شیر کا منہ ترس (احمال) کی طرح پھیلا ہوا ہوتا ہے، بکری کا منہ لسا ہوتا ہے۔ انسان کا منہ کیسے ہے بکری کی طرح ہے یا شیر کی طرح؟ شیر کی طرح ہے۔ اللہ نے اسے شیر بنایا ہے بکری نہیں بنایا۔

❶ شیر شادی کرتا ہے بکری شادی نہیں کرتی جہاں سے بھی مقصد پورا ہو جائے، بھیڑ بکریوں میں شادی وادی کا قصہ نہیں، انسان شادیاں کرتا ہے یا ایسے ہی بھیڑ بکری کی طرح مقصد نکالتا ہے؟ شادیاں کرتا ہے۔ گمراہ اور بے دین لوگ اگرچہ بد معاشی کرتے رہتے ہیں مگر شادیاں تو کرتے ہیں نا۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیر بنایا ہے یا بکری بنایا ہے؟ شیر بنایا ہے۔

❷ شیر اکل (کھانے والا) ہے، بکری ماکول (کھائی گئی) ہے۔ شیر دوسرے جانوروں کو کھاتا ہے جبکہ بکری کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے، یہ ماکول ہے وہ اکل ہے۔ انسان دوسری چیزوں کا گوشت کھاتا ہے یا خود اپنا گوشت دوسروں کو پیش کرتا ہے کہ مجھے کھاؤ؟ کھاتا ہے نا، شیر ہے یا بکری؟ شیر ہے۔

❸ بکری اتنا دودھ دیتی ہے کہ اس کے بچے پی لیں پھر بھی اتنا زائد ہوتا ہے کہ انسان پیتے ہیں۔ شیرنی صرف اپنے بچوں کی ضرورت کے مطابق دودھ دیتی ہے وہ اتنا دودھ نہیں دیتی کہ اس کو دودھ وہ کر نکال نکال کر، ڈبے بھر بھر کر بازار میں لے جا کر فروخت کیا جائے، اس معاملہ میں بھی انسان کا طریقہ شیر جیسا ہی ہے تو بتائیے انسان شیر ہے یا بکری؟ شیر ہے۔

❹ شیر اپنے کھانے پینے میں خود کفیل ہے کسی کا محتاج نہیں جبکہ بکری خود کھانے کھانے کے قابل نہیں اسے انسان چراتا ہے، گھاس و اس دیتا ہے، بکری دوسروں کی محتاج ہے۔ انسان خود کھاتا کھاتا ہے یا دوسروں کا محتاج ہے؟ خود کھاتا کھاتا ہے۔ شیر ہے یا بکری؟ شیر ہے۔

❺ شیر کا اقتناع نہیں کیا جاتا بکری کا اقتناع کیا جاتا ہے یعنی شیر آزاد ہے پرورش میں کسی کا محتاج نہیں، بکری اپنی پرورش و اقتناع میں غیر کی محتاج ہے۔ انسان بچپن میں تو دوسرے کا محتاج ہوتا ہے لیکن یہ کام اسی کی جنس کے لوگ والدین وغیرہ کرتے ہیں ایسے تو نہیں کہ انسان کی پرورش و اقتناع کے لئے کوئی دوسری مخلوق ہو، تو بتائیے؟ یہ شیر ہے یا بکری؟ شیر ہے۔

① شیر اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت خود کرتا ہے، بکری اپنی حفاظت ہی نہیں کر پاتی تو اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرے گی؟ دوسرے اس کی حفاظت کرتے ہیں، انسان اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت خود کرتا ہے یا کوئی دوسری مخلوق اس کی حفاظت کرتی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے معین فرما دیئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ظاہراً تو انسان خود ہی اپنی حفاظت کرتا ہے، بتائیں یہ شیر ہے یا بکری؟ شیر ہے۔

② شیر اپنا علاج خود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حیوانات کے دلوں میں علاج کی تدابیر ڈال دیتے ہیں یہ اپنا علاج خود کر لیتے ہیں۔ حقہ کرنا اور تلتیج یعنی انجکشن لگانا بگے سے سیکھا گیا ہے بقراط نے بگے سے سیکھا پھر اس سے آگے قصہ چلا ہے، شیر اپنا علاج خود کرتا ہے، بکری اپنا علاج کر ہی نہیں پاتی، بکریوں کے تو ہسپتال ہیں ان کے ڈاکٹر ہیں وہ ان کا علاج کرتے ہیں، انسان اپنا علاج خود کرے گا یا اپنے ہم جنس سے کروائے گا بکری کی طرح تو نہیں کہ نہ خود اپنا علاج کر سکتی ہے نہ اپنے ہم جنس سے کروا سکتی ہے۔ بتائیے کہ انسان شیر ہے یا بکری؟ شیر ہے۔

③ آواز میں دیکھیں شیر گرتا ہے اور بکری میں میں میں، بھیڑ بھی ایسے بھی ہیں، اگر انسان میں کچھ طاقت ہے بالکل مرل نہیں تو اس کا ذب کہیں کسی سے سامنا ہوتا ہے تو وہ گرتا ہے یا یہ میں میں کرتا رہتا ہے؟ گرتا ہے نا۔ شیر ہے یا بکری؟ شیر ہے۔

④ شیر ثابت القب ہے بھیڑ بکری ثابت القب نہیں، انسان بھی ثابت القب ہے تو یہ شیر ہے یا بکری؟ شیر ہے۔

ایھا اب بتائیں کہ جو لوگ جہاد نہیں کرنا چاہتے وہ بکری کی طرح ہیں نا تو ان کے ایک جانب کے دانت اکھاڑ دیں دوسری جانب کے انیاب (نیش) اکھاڑ دیں کیونکہ ان کے لئے بے کار ہیں یہ تو بکریاں ہیں، ان کے پنجے بھی کاٹ دیئے جائیں، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں کاٹ کر گول سا کھر بنا دیا جائے بکری یا گائے بھیٹس کی طرح اور جہاد سے



ڈرنے والے گوشت کھانا چھوڑ دیں گھاس کھایا کریں، شادیاں کرنا چھوڑ دیں بس ایسے ہی کام چلاتے رہیں اور شیر جیسا چہرہ کاٹ چھانٹ کر بکری جیسا لبوتراسا بنالیں۔ سنا ہے کہ امریکہ وغیرہ میں اس طرح چہرے مسخ ہو رہے ہیں۔ جہاد سے ڈرنے والے بکریوں جیسی صورت بنائیں، بکریوں جیسے خصائل پیدا کریں اور بکریوں کی طرح بولیں میں میں کیا کریں۔ گوشت کھانا چھوڑ دیں گھاس کھایا کریں۔

شیر کا بچہ کہیں بھٹک کر بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں چلا گیا، خود کو بھی بھیڑ بکری سمجھنے لگا اور انہی کی طرح بولنے لگا اچانک کسی شیر کا اس طرف گزر ہوا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شیر کا بچہ بھیڑ بکریوں میں کیسے چلا گیا۔ اس کے پاس جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ تو تو شیر کا بچہ ہے مگر وہ ماتحتی نہیں مسلسل یہی کہے جا رہا ہے کہ نہیں میں تو بھیڑ ہوں بھیڑ، شیر نے کہا اچھا ذرا میرے ساتھ چلو وہ اسے ایک چشمہ پر لے گیا وہاں جا کر اس سے کہا پانی میں عکس دیکھو کہ میرا اور تیرا عکس ایک جیسا ہے یا نہیں تو اس بچے نے کہا ہاں میں تو شیر ہوں، یہ کہہ کر ایک جست لگائی اور بھیڑ بکریوں کو چیز پھاڑ ڈالا۔

ایسے ہی ماخضیٰ قریب کے مسلمان بھیڑوں بکریوں میں رہتے رہتے خود کو بھیڑ بکریاں سمجھنے لگے تھے۔

وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر مسوں میں

اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہبازی

مسلمان تو شاہین تھے شاہین، شیر تھے، انگریز مردود نے ان سب کو بھیڑ بنا دیا، کرگس بنا دیا، یہ خود کو شیر یا شہباز یا شاہین نہیں سمجھتے بلکہ کرگس سمجھتے ہیں، یہ انگریزوں کی لعنت ہے۔ افغانستان میں جہاد کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے گزشتہ صدی کا تقریباً درمیانہ نصف جہاد سے بالکل غفلت میں گذرا ہے۔ انگریز نے تہجرت کر کے یہ یقین کر لیا کہ قتال کے ذریعہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اس لئے انہیں ذمہ کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ ان کے ذہنوں سے جہاد کمرچ کمرچ کر نکال دیا جائے، ان

کے دل و دماغ کو جہاد کے جہتوں سے صاف کر دیا جائے اس مقصد کے لئے انگریزوں نے کئی تدبیریں اختیار کیں، مثلاً اسکول اور کالج کی تعلیم اور کئی افراد اور کئی جماعتیں پیدا کیں جن کے اثر سے عوام تو عوام صوفیہ اور علماء تک جہاد سے ایسے غافل ہو گئے کہ گویا یہ دین کا کوئی فریضہ ہے ہی نہیں ماحول کے اثر نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

نہ ہوئی زاغ میں پیدا بلند پروازی  
خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ

زاغ میں بلند پروازی کہاں وہ تو اتنا اوپر اڑتا ہے کہ پاخانہ نظر آتا رہے کہاں کہاں پڑا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا اڑے گا دیکھے گا جہاں پاخانہ ہو گا وہاں اترے گا ورنہ نہیں۔ یہ مسلمان تو شاہین تھا شاہین، شاہین بچے کو صحبت زاغ نے زاغ بنا دیا، خراب کر دیا اس میں بلند پروازی نہیں رہی یہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی اوجھرا سلحہ نہ آجائے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، کہیں گولی چھوٹنے کی آواز سن لیتا ہے تو بیہوش ہوا جاتا ہے، دعاء کیا کریں کہ یا اللہ! تو نے شیر بنایا ہے، شکل شیر کی بنادی تو ہمارے دل کو بھی شیر بنا دے، بھیڑ نہ بنا۔ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ کافر شیر اور مسلمان بھیڑ بنے ہوئے ہیں۔

یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ

کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں مل میں

لیکن بفضل اللہ تعالیٰ اب حالات بدل رہے ہیں کچھ شیر جو جاگ گئے انشاء اللہ

تعالیٰ وہ باقی شیروں کو بھی جگا کر چھوڑیں گے۔

ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوں شب غم توڑ دیا

اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے

# فہرست موضوعات و رسائل

فقیر العصریؒ اعظم حضرات ہدین مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ

خطبات الرشید

حقوق القرآن

علاج یا عذاب

چندہ کی رقوم کے احکام

استقامت

درود

غیبت پر عذاب

اللہ کے باغی مسلمان

انوار الرشید

زکوٰۃ کے مسائل

دینداری کے تقاضے

ایمان کی کسوٹی

رمضان ماہِ محبت

قربانی کی حقیقت

عیسائیت پسند مسلمان

مراقبہ موت

زندگی کا گوشوارہ

گلستانِ دل

گانے بجانے کی حرمت

آسیب کا علاج

مسجد کی عظمت

میراث کی اہمیت

باب العبر

سیاستِ اسلامیہ

محبت الہیہ

بیعت کی حقیقت

ترک گناہ

شرعی پردہ

وہم کا علاج

ربیع الاول میں جوشِ محبت

ٹی وی کا زہر

شرعی لباس

مرض و موت

تبلیغ کی شرعی حیثیت اور حدود

حفاظتِ زبان

صراطِ مستقیم

نفس کے بندے

جشنِ آزادی

جواہر الرشید

صحبت کا اثر

صفاتِ قرآن

مالداروں سے محبت

انفاق فی سبیل اللہ

حفاظتِ نظر

ہر پریشانی کا علاج

علماء کا مقام

عمید کی سچی خوشی

ملاکارنق

سوڈن سے اللہ اور رسول اللہ ﷺ کا اعلانِ جنگ

علم کے مطابق عمل کیوں نہیں ہوتا؟

زحمت کو رحمت سے بدلنے کا نسخہ اکسیر

شریعت کے مطابق وراثت کی اہمیت

کتاب گھر  
کی دیگر  
مطبوعات

■ مسلح پہرہ اور توکل

■ سیدی و مرشدی

■ مسلم طالبات

■ پکار - دریچہ

■ تحریک کشمیر کی شرعی  
نوعیت

کتاب گھر، السادات سینٹر بالمقابل دارالافتاء والارشاد، ناظم آباد، کراچی

فون: 021-36688239 موبائل: 0305-2542686